فقہ حنفی و فتاویٰ عالمگیری پر اعتراضات کا

علمی محاسبہ

حصہ اوّل

از:-
عاشقِ مدینہ شیخ الحدیث والتفسیر فقیہ العصر حضرت علامہ

و البیان الحافظ محمد احسان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ

ـد مدرس جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد

ناشر:-
عاشقِ مدینہ اکیڈمی فیصل آباد

Marfat.com

۷۸۶
۹۲

52937

نام ــــــــ نقہ حنفی وفتاوی عالمگیری پر اعتراضات کا علمی محاسبہ (حصہ اوّل)

مصنّف ــــــ عاشق مدینہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا ابوالبیان حافظ محمد احسان الحق رحمتہ اللہ علیہ

ناشر ــــــــ عاشق مدینہ اکیڈمی۔ فیصل آباد

قیمت ــــــــ : ۱۲/-

تعداد ــــــ ایک ہزار

تاریخ اشاعت ۲۳ر ربیع الآخر سنہ ۱۴۱۰ھ ۲۳ر [redacted] نومبر

Marfat.com

393

ج

۷۸۶

عرضِ ناشر

محترم قارئین کرام ------------------

السلام علیکم!

عاشق مدینہ، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد احسان الحق رحمۃ اللہ علیہ کا وصال یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے۔ چونکہ نماز جنازہ کے موقع پر مناظر اسلام علامہ سعید احمد اسعد کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب "فتاوی عالمگیری" پر اعتراضات کے جوابات پر مشتمل آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف جہلم کی تقریبات پر شائع کی جائے گی۔ وقت بہت کم تھا اور کتاب کی کتابت وطباعت بھی کروانا تھی۔ چونکہ وعدہ کیا جا چکا تھا۔ لہذا پوری کوشش کے بعد کتاب کا فقط پہلا حصہ حاضر خدمت ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد دوسرا حصہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔

ناظم شعبہ نشر و اشاعت

Marfat.com

Marfat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ ٥ اَمَّا بَعْدُ۔

روزنامہ امروز لاہور میں بتاریخ ۱۳ر جنوری ۱۹۷۹ء پروفیسر رفیع اللہ شہاب کا ایک مضمون "کیا فتاویٰ عالمگیری قابلِ عمل ضابطہ ہے"؟ کا ترجمہ شائع ہوا۔ پروفیسر صاحب نے درج ذیل حقائق کو تسلیم فرمالیا ہے:۔

- شہنشاہ عالمگیر نامی مذہبی محقق تھے۔
- انہوں نے بنفسِ نفیس حنفی فقہ کی تمام معیاری کتب کا مطالعہ کیا۔
- اس فتاویٰ کو تمام مملکت کے اندر رائج کر دیا گیا۔
- فتاویٰ عالمگیری شہنشاہ کی نگرانی میں ترتیب دیا گیا
- فتاویٰ کو پانچ سو مسلّم فقہا نے ترتیب دیا۔"

رسولِ اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: مَنْ یُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَیْرًا یُّفَقِّهْهُ فِی الدِّیْنِ "یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے علومِ دینیہ میں "فقیہ" بنا دیتا ہے۔" (مشکوٰۃ شریف صـ۳۲) نیز فرمایا۔ فَقِیْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَی الشَّیْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ یعنی ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ سخت ہوتا ہے (مشکوٰۃ صـ۳۴)

پروفیسر: صاحب کی تسلیم کردہ حقیقتوں کو مندرجہ بالا حدیثوں کے ساتھ ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام "فتاویٰ عالمگیری" کو مرتب کرنے والے فقہا نے کیا وہ کام پانچ لاکھ عابدین (غیر فقہا) بھی نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب کے سب پروفیسر ہوں۔ اس

لیے عقل مندی یہی ہے اور پاکستانی مسلمانوں کی سچی خیر خواہی اس میں مضمر ہے کہ یہاں "فتاویٰ عالمگیری" کو قابلِ عمل ضابطۂ عمل قرار دے کر فی الفور نافذ کر دیا جائے۔ کیونکہ عالمگیر جیسا نیک اور محقق شہنشاہ آج نہیں ملتا۔ اور اُس وقت کے پانچ سو فقہا آج ناپید ہیں۔ انہیں زمانۂ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہونے کی وجہ سے ہم پر بدرجہا برتری حاصل تھی۔ وہ اِن کدورتوں اور ظلمتوں سے بھی پاک تھے۔ جو انگریز کی ڈیڑھ سو سالہ غلامی کے ناپاک دور کی نحوستوں کی بدولت آج کل کے بعض مدعیان علم و فضل میں پائی جاتی ہیں نیز وہ علمار اہلِ سُنّت کے، علماء دیوبند کے اور علمار اہلِ حدیث کے آباؤ اجداد تھے "اہل حدیث" بھی معترف ہیں کہ "ان کے میاں نذیر حسین صاحب کے بعض اجداد اس وقت عہدۂ قضا پر فائز تھے (الحیات بعد الممات ص۱۲-۱۳)

بنا بریں حنفی علمار کی طرح اہل حدیث حضرات کو بھی "فتاویٰ عالمگیری" کے نام سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بلکہ اس کے نفاذ کا مطالبہ کرنا چاہیے۔

دوالیبی: جس طرح شاہ خالد کے مشیر ڈاکٹر معروف احمد صاحب دوالیبی نے تسلیم کیا ہے۔ موصوف نے ریڈیو پاکستان سے ایک انٹرویو میں کہا کہ "پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی کیونکہ اس ملک میں اسلامی شریعت صدیوں تک نافذ رہی ہے۔ صرف انگریزوں کے دور میں برطانیہ نے یہاں سے اسلامی قوانین ختم کر کے اپنے قوانین نافذ کر دیئے تھے۔" (روزنامہ مشرق لاہور ۱۳ اکتوبر ۱۹۷۸ء)

جن قوانین کو انگریز نے ختم کیا تھا ان ہی کے مجموعہ کا نام "فتاویٰ عالمگیری" ہے اور ان ہی کو ڈاکٹر صاحب نے اسلامی نظام اور اسلامی شریعت قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ذی علم معلوم ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے درست کہا ہے اور پروفیسر صاحب دینی علوم میں کافی کمزور نظر آتے ہیں اس لیے انہوں نے "فتاوی عالمگیری" پر اعتراض کیے اور جا بجا ٹھوکریں کھائیں۔ ذیل میں پروفیسر صاحب کے اعتراضات اور ان کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔

Marfat.com

اعتراض ۱: بعض حنفی فقہا نے اسلامی ریاست کے سربراہِ اعلیٰ کو زنا چوری شراب نوشی یا کسی پر زنا کا جھوٹا الزام لگانے کی حدود سے مستثنیٰ قرار دیا ہے (ملخصاً)

جواب: پروفیسر صاحب نے حنفی فقہا کی عبارات سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ فقہا کرام ایسے بدکردار کو اولاً سربراہ مملکت بننے نہیں دیتے۔ اگر بدقسمتی سے تجرباً سربراہ مملکت بن جائے تو اس کے معزول کرنے کے مناسب اقدامات فرماتے ہیں کیونکہ جب تک وہ ریاست کا سربراہ اعلیٰ ہے تب تک اس کے اوپر "قوۃ نافذۃ" قائم نہیں ہوسکتی اور حدودِ خداوندی کا نفاذ "قوۃ نافذہ" کے بغیر ممکن نہیں۔ پہلے اثارۃ فتنہ کے بغیر اس بدکردار سربراہ کو معزول کیا جائے گا پھر مقدمہ چلایا جائے گا پھر حدود نافذ کی جائیں گی —— اگر پروفیسر صاحب چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ کا بغور مطالعہ کرتے تو انہیں معلوم ہوجاتا کہ بارہا سربراہان مملکت نے ایسے جرموں کا ارتکاب کیا مگر ان پر بزمانہ ان کی سربراہی کے حد جاری نہ کی گئی —— پتہ چلا کہ یہ مسئلہ صرف بعض حنفی فقہاء کا نہیں بلکہ سب کا متفقہ ہے۔ ہدایہ ج ۲ ص ۵۲ میں اس مسئلہ کی دلیل یہ لکھی ہے۔ لِاَنَّ الحُدُودَ حَقُّ اللّٰہِ تَعَالٰی وَاِقَامَتُھَا اِلَیْہِ .... بِخِلَافِ حُقُوقِ العِبَادِ یعنی حد چونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کا قائم کرنا صرف سربراہ اعلیٰ کے ذمہ ہے اور وہ خود اپنی ذات پر اسے قائم نہیں کرسکتا (لہٰذا اس سے بجائے دنیا کے آخرت میں مؤاخذہ ہوگا) البتہ اس سے حقوق العباد طلب کیے جاسکتے ہیں جبکہ صاحب حق معاف نہ کرے (مثلہ فی تبیین الحقائق ص ۱۸۷ جلد ۳)

اعتراض ۲: ہم چوری کی سزا کو لیتے ہیں اسلام مسلمانوں پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنی جائز اور ایمانداری کی کمائی پر قانع رہیں اور کسی دوسرے کی جائیداد کو ہتھیانا اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ لیکن فتاویٰ ہندیہ (عالمگیری) میں چوری کے اثبات کے لیے اس قسم کی شرائط عائد کردی گئی ہیں کہ حد کی سزا اگر کبھی ہو تو بمشکل ہی نافذ کی جاسکتی ہے۔ سوائے اس کے کہ چور خود ہی اپنے جرم کا اقرار کرے۔

جواب: پروفیسر صاحب نے نہ اسلام کو سمجھا ہے نہ "فتاویٰ عالمگیری" کو۔ اسلام میں یہ کہاں

Marfat.com

لکھا ہے کہ کسی کی جائیداد ہتھیانے کی تمام صورتوں میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بلکہ بعض صورتوں میں ہاتھ کاٹنے کی بجائے دوسری سزائیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ دیکھئے سود حرام قطعی ہے لیکن اس کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں بلکہ لعنت وجہنّم ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے۔ لَا قَطْعَ فِیْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِیْ حَرِیْسَةِ جَبَلٍ۔ لَیْسَ عَلٰی خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ۔ مَنِ انْتَهَبَ نَهْبَةً مَشْهُوْرَةً فَلَیْسَ مِنَّا یعنی لٹکے ہوئے پھلوں کی اور پہاڑ میں محفوظ چیزوں کی چوری ہو جائے تو ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ جو شخص کسی کا مال بذریعہ خیانت یا بذریعہ لٹیراپن ہتھیالے یا اچک کرلے جائے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ ہاں لٹیرا ہماری جماعت سے خارج ہے (مشکوٰۃ صـ۳۱۳)

پروفیسر: صاحب تمام انسان اللہ کے بندے ہیں اور رسولِ کریم (علیہ التحیۃ والتسلیم) کے اُمّتی۔ جب اللہ و رسول سب مجرموں کے ہاتھ کٹوانا نہیں چاہتے بلکہ بعض کو بعض دیگر سزاؤں میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو سب کے ہاتھ کاٹنے پر کیوں اصرار ہے؟

"فتاویٰ ہندیہ" کی جملہ دفعات قرآن و حدیث پر مبنی ہیں۔ آپ نہ سمجھ سکے تو قصور کس کا؟

اعتراض ۱۳: اگر کوئی چور مجرم ہونے کا اقرار کرے تو مسلم حاکم کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اسے اپنے اعتراف سے پھر جانے کی ترغیب دے تاکہ وہ حد کی سزا سے بچ جائے۔

جواب: پروفیسر صاحب نے "فرض ہوگا" کے الفاظ اپنی طرف سے کہے ہیں، کتاب میں ان کا ذکر نہیں۔ فتاویٰ عالمگیری کی اصل عبارت ملاحظہ ہو۔ یَنْبَغِیْ اَنْ یُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوْعَ اِحْتِیَالًا لِلدَّرْءِ وَاِذَا رَجَعَ عَنِ الْاِقْرَارِ صَحَّ فِی الْقَطْعِ وَلَا یَصِحُّ فِی الْمَالِ یعنی اگر کوئی شخص اقرار کرے کہ میں نے فلاں شخص کی چوری کی ہے تو مناسب ہوگا کہ مقر کو اقرار سے رجوع کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ وہ رجوع کے سبب حد سرقہ سے بچ جائے۔ لیکن اس رجوع سے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ باقی رہا مال وہ ضروری طور پر حسبِ اعتراف اس سے برآمد کیا جائے گا (ج ۲ صـ۱۷۱)

حدیث شریف: یہ مسئلہ دل سے نہیں بنایا گیا۔ بلکہ درج ذیل حدیث سے مستنبط ہے ایک

Marfat.com

دفعہ ایک شخص نے بارگاہِ اقدس سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم میں حاضر ہو کر اعتراف جرم کیا تو آپ نے اسے تلقین فرمائی کہ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللّٰہَ وَتُبْ اِلَیْہِ رجوع کر۔ اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر (مشکوٰۃ ص۳۱۱) مگر اس نے اعترافِ جرم سے رجوع نہ کیا تو آپ نے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ جب اس پر سنگساری شروع کی گئی تو وہ بھاگ پڑا۔ سنگسار کنندگان میں سے بعض نے تعاقب کر کے اس کا کام تمام کر دیا (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) پھر یہ واقعہ سیّدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ ھَلَّا تَرَکْتُمُوْہُ لَعَلَّہٗ اَنْ یَّتُوْبَ فَیَتُوْبَ اللّٰہُ عَلَیْہِ ۔ تم نے اسے (چھوڑ دینا تھا) چھوڑا کیوں نہیں۔ (بھاگنے کے بعد کیوں قتل کیا) شاید کہ وہ اعترافِ جرم سے رجوع کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کا رجوع قبول فرما لیتا (مشکوٰۃ ص۳۱۱-۳۱۲)

اعتراض ۴: اگر چور اعترافِ جرم کے بعد عدالت یا سزا کی جگہ سے فرار ہو جاتا ہے تو اس کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔

جواب: پچھلے اعتراض کے جواب میں غور کرنے سے اس اعتراض کا جواب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو جرم شہادت کے بغیر محض اعتراف جرم کی بنیاد پر ثابت ہو اس سے اگر مجرم رجوع کر لے تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔ پھر چونکہ حدیثِ مذکور سے پتہ چلتا ہے کہ فرار بھی رجوع کی دلیل بن سکتا ہے لہٰذا جو شخص سزا کی جگہ سے فرار ہو جائے گا اس کا تعاقب حد قائم کرنے کے لیے ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جس رقم کا اس نے اعتراف کیا ہے وہ ضرور وصول کی جائے گی۔

پروفیسر صاحب نے چوری کی بابت کچھ اور اعتراض بھی کیے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی طرح بے معنی ہیں اور مندرجہ بالا سطور میں غور کرنے سے سب کے جوابات معلوم ہو جاتے ہیں۔ بنابریں ان سے صرف نظر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔

اعتراض ۵: اسلام کی رو سے زنا ایسے شرمناک جرم میں مجرم سخت سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے لیکن فتویٰ ہندیہ (عالمگیری) نے رو رعایت کا ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ حد کی سزا بمشکل ہی نافذ کی جا سکتی ہے۔ سوا اس کے کہ مجرم خود اپنے جرم کا اعتراف کرے۔

Marfat.com

جواب: پروفیسر صاحب نے غلط بیانی کی ہے مجرم کے اعتراف کے بغیر بذریعہ شہادتِ معتبرہ بھی ثبوت زنا ہو سکتا ہے۔ مجرم کا معترف ہونا شرط نہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ یَثْبُتُ الزِّنَا عِنْدَ الْحَاکِمِ ظَاهِرًا بِشَهَادَةِ اَرْبَعَةٍ یَشْهَدُوْنَ عَلَیْهِ بِلَفْظِ الزِّنَا یعنی حاکمِ وقت کے پاس چار آدمی گواہی دیں کہ فلاں شخص نے زنا کیا تو ان کی شہادت سے زنا ثابت ہو جائے گا۔ (ج ۲ ص ۱۴۳ عربی)

اعتراض ۶: ایک شخص زنا کے ارتکاب کا اقرار کرتا ہے حالانکہ شاذونادر ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اسے اپنے اقرار سے پھر جانے کی ترغیب دی جائے گی تاکہ وہ حد کی سزا سے جو کہ ۱۰۰ کوڑے ہے بچے۔

جواب: زنا کی حد صرف ۱۰۰ کوڑے نہیں بلکہ اگر زانی محصن ہو تو اسے سنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ اقرار سے پھر جانے کی ترغیب کا مسئلہ "فتاویٰ عالمگیری" میں بدیں عبارت مذکور ہے۔ نَدَبَ تَلْقِیْنُهٗ قَبَّلْتَ اَوْ لَمَسْتَ اَوْ وَطِئْتَ بِشُبْهَةٍ .... وَالْمَقْصُوْدُ اَنْ یُّلَقِّنَهٗ مَا یَکُوْنُ دَارِئًا کَائِنًا مَا کَانَ (ج ۲ ص ۱۴۴ عربی)

اس کا وہ مطلب نہیں جسے پروفیسر صاحب نے سمجھا اور لکھا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بعض دفعہ مجرم جاہل ہوتا ہے اور اس نے بجائے بڑے جرم کے کسی چھوٹے جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے لیکن بنا بر جہالت اس کی تعبیر ایسے لفظ کے ساتھ کرتا ہے جو بڑے جرم پر دلالت کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تو صحیح صورتِ حال معلوم کرنے کے لیے اسے کچھ باتوں کی تلقین کرنا۔ تاکہ وہ چھوٹے جرم اور بڑے جرم کے فرق کو سمجھ کر صحیح جرم کا اعتراف کرے اور صحیح سزا پائے۔ ایک پسندیدہ فعل ہے ایسا کرنے سے چھوٹے جرم کا مرتکب بڑے جرم کی سزا سے بچ جائے گا مثلاً ایک شخص کسی اجنبی عورت کو صرف ہاتھ لگاتا ہے یا بوسہ لیتا ہے یا وطی بالشبہ کرتا ہے تو ان جرموں کی سزا حد (۱۰۰ کوڑے) نہیں مگر وہ بوقت اعترافِ جرم "زنا" کا نام لیتا ہے تو اسے لَعَلَّکَ قَبَّلْتَ (شاید کہ تو نے زنا نہ کیا ہو صرف بوسہ لیا ہو) اَوْ لَمَسْتَ (شاید کہ تو نے زنا نہ کیا ہو

Marfat.com

صرف ہاتھ لگایا ہو) کہہ کر اصل جرم کے اعتراف کی تلقین کرنا ہرگز بُرا نہیں۔

حدیث شریف: فتاویٰ عالمگیری میں ذکر کردہ مسئلہ تلقین حدیث شریف سے ماخوذ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر ایک شخص نے اعترافِ "زنا" کیا تو آپ نے اسے بدیں الفاظ تلقین فرمائی۔ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ اَوْ غَمَزْتَ اَوْ نَظَرْتَ شاید کہ تو نے صرف بوسہ لیا ہو یا صرف دبایا ہو۔ یا صرف نظر ڈالی ہو (مشکوٰۃ ص۳۱۱) جرم کا اعتراف کرتے ہوئے غلطی واقع ہو جانے کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ ایک پاک باطن شخص نے ایک ایسا گناہ کیا جو نماز باجماعت پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ مگر انہوں نے اس کا اعتراف بڑے سخت الفاظ کے ساتھ کیا۔ اِنِّیْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَیَّ یعنی یا رسول اللہ! میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس نے حد کی سزا واجب کر دی ہے۔ آپ مجھ پر حد کی سزا قائم فرما دیجئے۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔ ببرکت اس نماز کے جو تو نے ہمارے ساتھ پڑھی۔ (بخاری شریف ج ۲ ص۱۰۰۸)

اعتراض: جرم کے اعتراف کی صورت میں اگر اس شرمناک جرم میں شریک دوسرا ساتھی ارتکابِ گناہ سے انکار کر دے تو دونوں مجرم حد کی سزا سے مستثنیٰ قرار دے دیئے جائیں گے۔

جواب: اس کی وجہ بھی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ کیونکہ جو ساتھی ارتکابِ زنا سے انکار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں نے جو جرم کیا ہے وہ اتنا سنگین نہیں کہ اس کے لیے "زنا" کا لفظ استعمال کیا جائے اور بصورت عدم احصان سو سو کوڑے کھائے جائیں بلکہ وہ جرم چھوٹا (تقبیل غمزہ لمس وغیرہ) ہے۔ اس کی سزا سو کوڑے مقرر نہیں۔ میرا ساتھی بنا بر جہالت زنا اور غیر زنا میں فرق نہیں کر سکا۔ اس شبہ کی بنا پر "فتاویٰ عالمگیری" نے دونوں کو حدِ زنا کی سزا سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

Marfat.com

نے ارشاد فرمایا۔ اِدْرَؤُا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ۔ شبہ پڑنے پر حد ختم کردو (الجامع الصغیر ص۱۴)

اعتراض ۸: مرد اس بات کا اعتراف کرلیتا ہے کہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو اگر عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اس مرد سے شادی کرلی تھی یا وہ اپنے جرم کا اقرار کرتی ہے لیکن مرد اس عورت سے شادی کرلینے کا دعویٰ کرتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی مستوجب سزا نہ ہوگا۔

جواب: پروفیسر صاحب! پندرہ بیس سال تک فقہا کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بغیر "فتاویٰ عالمگیری" کی سمجھ نہیں آسکتی۔ اسے علماء عظام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سنیئے میں عرض کرتا ہوں۔ دو گواہوں کی موجودگی میں باہمی "ایجاب و قبول" کا نام نکاح ہے تو اگر (مثلاً) عورت و مرد نے اپنے باپوں یا بالغ بیٹوں کی موجودگی میں باہم ایجاب و قبول کرلیا تو شرعاً نکاح منعقد ہوگیا۔ لیکن یہ مسئلہ ایک کو معلوم ہے دوسرے کو نہیں پھر دونوں ہم بستر ہوئے تو جسے علم نہیں اس نے اس ہم بستری کو "زنا" کہا اور دوسرے نے نکاح۔ جب یہ کیس قاضی اسلام کے سامنے پیش ہوگا کہ دونوں میں سے ایک زنا کا اعتراف کرتا ہے اور دوسرا نکاح کا مدعی ہے تو قاضی اسلام پر لازم ہوگا کہ وہ اس صورت ممکنہ کی بنا پر کسی پر حدِ زنا قائم نہ کرے۔ دونوں کو معاف کردے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔ (فَاِنَّ الْاِمَامَ اَنْ یُّخْطِئَ فِی الْعَفْوِ خَیْرٌ مِّنْ اَنْ یُّخْطِئَ فِی الْعُقُوْبَةِ۔) یعنی معافی دینے میں خطا کرنا بہتر ہے اس سے کہ سزا دینے میں خطا کی جائے (مشکوٰۃ ص۳۱۰)

اعتراض ۹: ایک شخص جانتا ہے کہ اسلام میں متعہ غیر قانونی ہے۔ مگر اس کے باوصف وہ مقررہ میعاد کے لیے یا گواہوں کی موجودگی کے بغیر اس سے شادی کر لیتا ہے اور اس سے مجامعت بھی کرلیتا ہے تو اس پر حد کی سزا واجب نہ ہوگی۔

جواب: نکاح متعہ حرام ہے اس کے مرتکبین کی بابت "فتاویٰ عالمگیری" میں لکھا ہے کہ یُوْجَعَانِ عُقُوْبَةً وَّیُحْبَسَانِ حَتّٰی یَتُوْبَا دونوں کو سخت سزا دی جائے

Marfat.com

گی اور جب تک سچی توبہ نہیں کرتے جیل میں قید کیے جائیں گے (ج ۲ ص ۱۴۹) لیکن اس کی حرمت زنا کی طرح ہمیشہ سے نہیں۔ پہلے مباح تھا خیبر کے دن حرام فرما دیا گیا (بخاری ج ۲ ص ۶۰۶) پھر فتح مکہ کے دن مباح فرمایا گیا۔ (مسلم ج ۱ ص ۴۵۱) پھر قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا گیا۔ بنا بریں بعض صحابہ کرام ابتداءً اس کی اباحت کے قائل تھے۔ انہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تو انہوں نے اس کی اباحت سے رجوع فرما لیا اور قیامت تک کی حرمت کے قائل ہو گئے (بخاری ج ۲ ص ۱۰۲۹ ج ۲ ص ۷۶۷) معلوم ہوا کہ متعہ کی حرمت ابدی ہونے کے باوجود ازلی نہیں اور قطعی ہونے کے باوجود زنا کی طرح شدید نہیں۔ لہٰذا جو سزا قرآن و حدیث نے زنا کی بیان فرمائی ہے وہ متعہ کے مرتکبین پر نافذ نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ حد کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اللہ کے مسلمان بندوں پر اللہ سے اجازت لیے بغیر حد نافذ نہیں کی جا سکتی حدیث شریف میں ہے اِدْرَءُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ مسلمانوں سے حتی الوسع حدیں گراؤ (مشکوٰۃ ص ۳۱۱) مستند کتابوں کے حوالہ جات مع صفحات درج کر دیئے گئے ہیں تاکہ پروفیسر صاحب اگر از خود تحقیق کرنا چاہیں اور انہیں عربی آتی ہو تو خود تحقیق کر لیں۔

اعتراض ۱۱: نابالغ لڑکی سے زنا پر بھی حد کی سزا واجب نہ ہو گی۔

جواب: پروفیسر صاحب نے غلط سمجھا "فتاویٰ عالمگیری" میں ہے۔ اِنْ زَنٰى صَحِيْحٌ بِمَجْنُوْنَةٍ اَوْ صَغِيْرَةٍ يُجَامَعُ مِثْلُهَا حُدَّ الرَّجُلُ خَاصَّةً اگر کسی شخص نے مجنون عورت سے یا ایسی نابالغ لڑکی سے زنا کیا جس سے مجامعت ہو سکتی ہے تو مرد کو حد کی سزا دی جائے گی (ج ۲ ص ۱۴۹) ہاں اگر کسی بدکار نے ایسی نوعمر لڑکی سے زنا کرنے کی کوشش کی جس سے مجامعت نہیں ہو سکتی تو چونکہ اس نے حقیقتہً زنا نہیں کیا لہٰذا اسے زنا کی سزا نہ دی جائے گی۔ بلکہ اگر لڑکی اس کے فعلِ بد سے مر گئی تو قتل کی سزا کا مستوجب ہو گا۔ ورنہ دوسری سزاؤں کا۔ جب صغر سنی کی وجہ سے زنا ہو ہی نہیں سکتا تو زنا کی سزا کیسی؟ اگلے صفحہ کی عبارت اِذَا زَنٰى بِصَبِيَّةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا کا یہی مطلب ہے جو فقیر نے عرض کیا۔

Marfat.com

اعتراض ۱۱: اگر ایک لڑکی ایک سوئے ہوئے آدمی کے بستر میں گھس جاتی ہے اور اسے مباشرت پر اکساتی ہے اور وہ اس سے شرمناک جرم کا ارتکاب کرلیتا ہے تو حد کی سزا کسی پر نافذ نہ ہوگی۔

جواب: فتاویٰ عالمگیری کی اصل عبارت یہ ہے۔ لَوْ مَکَّنَتْ نَفْسَھَا مِنَ النَّائِمْ لَایَجِبُ عَلَیْھِمَا الْحَدُّ صفحہ ۱۵۰ ج ۲ اس کے معنی وہ نہیں جنہیں پروفیسر صاحب نے بیان کیا بلکہ مطلب صرف اتنا ہے کہ مرد سویا ہوا ہے عورت نے اپنے آپ کو اس کے قابو میں دے دیا ہے کہ وہ جو چاہے اس سے کرلے۔ عبارت میں مرد کے جاگنے کا ذکر نہیں شہوت میں آنے کا ذکر نہیں دخول کرنے کا ذکر نہیں اور ان سب چیزوں کے پائے جانے کے بغیر زنا متحقق نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ زنا مرد کا فعل ہے عورت کا نہیں۔ عورت فاعل نہیں ہوا کرتی مفعول بہا ہوا کرتی ہے۔ جب فاعل سویا ہوا ہے اور فعل ثابت ہی نہیں تو حد زنا کا مستوجب کون ہوگا؟ ہاں وہ عورت اپنی اس ناپاک حرکت اور غلیظ جسارت کی بنا پر "حد زنا" کے علاوہ تعزیر کی ضرور مستحق ہوگی۔ پروفیسر صاحب کا یہ لکھنا کہ "وہ اس سے شرمناک جرم کا ارتکاب کرلیتا ہے"، محض ایجاد بندہ ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں اس بات کا وجود نہیں۔ اگر پروفیسر صاحب یہ کہیں کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ کوئی لڑکی باوصف تمکین کسی کے بستر میں گھس جائے اور وہ اس سے شرمناک فعل نہ کرے۔ تو جواب عرض کروں گا۔ کہ ہم مسلمانوں کا تابناک ماضی اس قسم کے معطر واقعات سے بھرا پڑا ہے کہ اہل اللہ کو پھسلانے کی غرض سے حسین سے حسین تر لڑکیاں خوب بن ٹھن کر رات بھر پیش ہوتی رہیں مگر عذاب الٰہی سے ڈرنے والوں نے باوجود جاگنے اور باوجود جوان و تندرست ہونے کے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور شب بھر عبادت گزاری میں رہے۔ (شرح الصدور صفحہ ۹)

اعتراض ۱۲: ایک عورت یا لڑکے پر غیر فطری حملہ کرنے کی صورت میں مجرم پر حد کی سزا نافذ نہ ہوسکے گی بلکہ اس کی بجائے اس پر تعزیر کی سزا نافذ ہوگی جو کہ تین سے انتالیس کوڑوں تک ہے۔

Marfat.com

جواب: زنا کے لیے ایلاج فی القبل ضروری ہے ایلاج فی الدبر کا نام زنا نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ مجرم جس نے زنا نہیں کیا اس پر حد زنا کی سزا کس طرح نافذ ہو سکتی ہے۔ غیر فطری حملہ کرنے والے کی جو سزا قرآن و حدیث نے مقرر نہیں فرمائی وہ سزا فتاویٰ عالمگیری مقرر نہیں کر سکتا۔ ہاں اس گھناؤنے جرم کی سزا "تین سے انتالیس کوڑوں" تک ہی نہیں بلکہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔ لَوِ اعْتَادَ اللِّوَاطَةَ قَتَلَهُ الْاِمَامُ اگر کوئی شخص غیر فطری حملہ کرنے کا عادی ہو تو اس کو امام قتل کر دے (صرف کوڑوں پر اکتفا نہ کرے) (ج ۲ صفحہ ۱۵۰)

اعتراض ۱۳: پھر اگر زنا کے ایک کیس میں تین گواہ یہ شہادت دیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مجرموں کو جرم کرتے دیکھا ہے اور چوتھا یہ گواہی دے کہ اس نے ملزمین کو بستر میں ملفوف دیکھا ہے تو حد کی سزا نافذ نہ ہو گی بلکہ اس کی بجائے پہلے تین گواہوں پر حد قذف کی سزا جو اسی کوڑے ہے جاری کی جائے گی۔

جواب: اگر ملزم اعتراف نہ کرے تو ثبوت زنا کے لیے چار گواہوں کی شرط اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیت ۱۳ میں صراحتہً ذکر فرمائی ہے اور کسی پر زنا کی تہمت لگائی جائے اور "چار گواہ" پیش نہ کیے جائیں تو اسی آیت میں تہمت لگانے والوں کو عند اللہ کاذب کہا گیا ہے پھر اس سورۃ کی آیت ۴ میں ان تہمت لگانے والوں کو اسی کوڑوں کی سزا کا مستوجب قرار دیا گیا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری کا مسئلہ مذکورہ ان دو آیتوں کی روشنی میں مرتب فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں گواہ صرف تین ہیں۔ چوتھا ملفوف ہونے کا گواہ ہے زنا کا گواہ نہیں۔ اور ملفوف ہونا دخول کو مستلزم نہیں اور دخول کے بغیر زنا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ممکن ہے عورت رتقاء ہو ممکن ہے مرد مجبوب ہو ممکن ہے دونوں پر یا کسی ایک پر یکدم خوفِ خدا طاری ہو گیا ہو اور وہ سنگین جرم کے ارتکاب سے بچ گئے ہوں جیسا کہ حدیث شریف میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ عین برہنگی و تنہائی کی حالت میں عورت نے مرد کو "اِتَّقِ اللّٰہ" کہہ کر فعل بد سے بچا لیا۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۴۲۱) جب ملفوف ہونے کا گواہ زنا کا گواہ نہیں تو حد زنا کس

Marfat.com

طرح لگائی جا سکتی ہے۔ پروفیسر صاحب کا اس مسئلہ پر اعتراض کرنا جو قرآن مجید سے صراحتہً ثابت ہو رہا ہے یقیناً علاماتِ قیامت سے ہے۔

پروفیسر صاحب بیچارے علم حدیث میں کافی کمزور ہیں ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیس تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عدالت میں پیش ہونے والے کیس کے بالکل موافق ہے اور آپ نے وہی فیصلہ فرمایا تھا جو فتاویٰ عالمگیری میں مذکور ہے (سنن بیہقی ج ۸ ص ۲۳۶ البدایۃ والنہایۃ ج ۸ ص ۵۸)

اعتراض[۱۴]: اگر شاہد اس عورت کو نہیں پہچانتے جس کے ساتھ جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے تو کسی پر حد کی سزا جاری نہ ہوگی۔

جواب: یہ مسئلہ فتاویٰ عالمگیری (ج ۲ ص ۱۵۲) میں ہدایہ اولین (ص ۵۱۲) سے نقل کیا گیا ہے۔ ہدایہ میں حد کی سزا جاری نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب گواہ عورت کو پہچانتے نہیں تو ممکن ہے کہ وہ عورت اس مرد کی بیوی ہو یا باندی۔ اور بیوی و باندی سے ہم بستری کرنا زنا نہیں۔ چونکہ احادیثِ مبارکہ سے ثابت ہے کہ شبہات سے حدیں گر جایا کرتی ہیں۔ اس لیے اس شبہ کی بنا پر حد زنا جاری نہ کی جائے گی۔

اعتراض[۱۵]: اگر دو شاہد کسی ملزم کے بارے میں یہ شہادت دیں کہ اس نے فلاں عورت پر مجرمانہ حملہ کیا مگر دوسرے یہ کہیں کہ اس نے اس جرم کا ارتکاب عورت کی مرضی سے کیا ہے۔ تو کسی پر حد کی سزا جاری نہ ہوگی۔

جواب: اس جگہ پروفیسر صاحب نے زبردست خیانت سے کام لیا ہے اور مغالطہ دہی کی خاطر نہ فتاویٰ عالمگیری کی اصل عبارت ذکر کی ہے نہ اس کا صحیح مفہوم بیان کیا نہ نمبر صفحہ لکھا۔ اصل عبارت یہ ہے۔ اَرْبَعَۃٌ شَہِدُوْا عَلٰی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَشَہِدَ اِثْنَانِ اَنَّہٗ اَسْتَکْرَھَھَا وَشَہِدَ اِثْنَانِ اَنَّھَا طَاوَعَتْہُ قَالَ اَبُوْحَنِیْفَۃَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اُدْرَأُ عَنْھُمُ الْحَدَّ جَمِیْعًا یَعْنِی الرَّجُلَ وَالْمَرْأَۃَ وَالشُّھُوْدَ ص ۱۵۳ ج ۲ فتاویٰ ہندیہ اردو شائع کردہ شیخ

Marfat.com

غلام علی اینڈ سنز لاہور میں اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے۔ "چار مردوں نے ایک شخص پر زنا کی گواہی دی جن میں سے دو گواہوں نے کہا کہ اس مرد نے اس عورت کو باکراہ مجبور کر کے زنا کیا ہے اور دوسرے دو گواہوں نے کہا کہ اس عورت نے خود اس کی مطاوعت کی ہے تو امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ حد ان سب سے دور کر دی جائے گی۔ یعنی مرد و عورت و گواہوں سب سے رفع کی جائے گی (ج ۳ ص۳۴۴) اس ترجمہ میں اور پروفیسر صاحب کی ذکر کردہ عبارت میں بڑا فرق ہے۔ پروفیسر صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ عورت کی رضامندی کی صورت میں اگر زنا واقع ہو تو فتاویٰ عالمگیری کے مطابق حد زنا کی سزا قائم نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ مطلب غلط ہے اور یہ تاثر گمراہ کن ہے۔ بلکہ صحیح مطلب عبارت مذکورہ کا یہ ہے کہ چونکہ ثبوت زنا کے لیے چار عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے (فتاویٰ عالمگیری ج ۲ ص۱۴۳) اس جگہ سب گواہ عادل نہیں ہیں ان میں سے دو یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیونکہ اگر عورت رضامند نہ تھی اور مرد نے اس پر زبردستی کی تو رضامندی و مطاوعت کے گواہ جھوٹے ہیں اور اگر رضامندی تھی تو اکراہ و زبردستی کے گواہ جھوٹے ہیں۔ جب اس کیس میں چار عادل گواہ پیش نہیں کیے گئے تو زنا ثابت نہ ہوا۔ لہٰذا حدِ زنا کسی پر قائم نہیں کی جاسکتی۔

پروفیسر صاحب: علم فقہ آسان علم نہیں آپ اس کو علماء کرام کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ نے ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی نہیں کیا تو کر لیں۔

پھر علومِ فقہیہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے توضیح تلویح و مسلم الثبوت تک کتب اصول فقہ اور ہدایہ و درِ مختار تک کتب فقہ سبقاً سبقاً پڑھیں۔ پھر فتاویٰ عالمگیری کا مطالعہ کریں تو انشاء اللہ خواہ مخواہ کی الجھنوں سے محفوظ رہیں گے اور یقین فرمالیں گے کہ حنفی فقہ قرآن مجید۔ حدیث شریف اور اقوالِ صحابہ کے عین موافق ہے اور سب فقہوں سے بالا ہے۔ اس کی تدوین کی سعادت جن نفوس قدسیہ کو حاصل ہوئی ان کے اذہان طیبہ میں ہمہ وقت لاکھوں حدیثیں موجود رہتی تھیں ان ہی حدیثوں نے بوقت تدوین ان حضرات کی رہنمائی فرمائی۔ پروفیسر صاحب! میرا اور آپ کا

Marfat.com

علم تو بہت تھوڑا ہے۔

امام شعرانی: محقق مذاہب اربعہ عارف ربانی سیدی عبدالوہاب الشعرانی الشافعی فرماتے ہیں۔ قَدْ تَتَبَّعْتُ بِحَمْدِ اللّٰہِ اَقْوَالَہٗ وَاَقْوَالَ اَصْحَابِہٖ ... فَلَمْ اَجِدْ قَوْلاً ..... اِلَّا وَھُوَ مُسْتَنَدٌ اِلٰی آیَۃٍ اَوْحَدِیْثٍ اَوْ اَثَرٍ اَوْ اِلٰی مَفْھُوْمِ ذَالِکَ اَوْحَدِیْثٍ ضَعِیْفٍ کَثُرَتْ طُرُقُہٗ اَوْ اِلٰی قِیَاسٍ صَحِیْحٍ عَلٰی اَصْلٍ صَحِیْحٍ یعنی میں نے بحمدہٖ تعالیٰ امام اعظم ابوحنیفہ کے اقوال کا اور آپ کے اصحاب کے اقوال کا بغور مطالعہ کیا۔ مجھے کوئی قول ایسا نظر نہیں آیا جس نے کسی آیت یا حدیث یا آثار صحابہ یا ان کے مفہوم کا یا ایسی حدیث ضعیف کا جو کثرتِ طرق کی وجہ سے قوی ہو چکی ہے۔ یا قیاسِ صحیح کا سہارا نہ لیا ہو۔ (بلکہ ان کا ہر قول مندرجہ بالا اصولِ شرعیہ میں سے کسی نہ کسی سے ضرور ثابت پایا) ("المیزان الکبریٰ صـ۴۴")

پروفیسر رفیع اللہ شہاب نے فتاویٰ عالمگیری کے خلاف تین مضمون روزنامہ "امروز" لاہور میں چھپوائے ہیں۔ پہلا مضمون ۳ر جنوری کو چھپا تھا۔ جس کا جواب اہلِ سُنت و جماعت کے مؤقر ماہنامہ "رضائے مصطفٰے" گوجرانوالہ میں بالاقساط شائع ہو رہا ہے۔ دوسرا مضمون میری نظر سے نہیں گزرا۔ کوئی صاحب بھجوادیں تو بشکریہ قبول ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے چاہا تو اس کا بھی جواب لکھا جائے گا۔ تیسرا مضمون ۴ر اپریل ۱۹۷۹ء کی اشاعت میں شائع ہوا۔ ذیل میں اس تیسرے مضمون کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں پھر بتوفیقہٖ تعالیٰ جواب عرض کروں گا۔

اعتراض ۱۶ متعلق عقیقہ: پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری مطبوعہ لاہور جلد نہم صـ۱۱۱ پر عقیقے کی رسم کے بارے میں یہ فتویٰ درج ہے۔ "جامع صغیر میں مذکور ہے نہ پسر کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اور نہ دختر کی طرف سے اور یہ کراہتہ کی طرف اشارہ ہے" اور فقہ کی ایک کتاب "نیل الاوطار" میں امام ابوحنیفہ کا عقیقے کے بارے میں فتویٰ ہے کہ "عقیقہ زمانۂ جاہلیت کی ایک رسم تھی جسے اسلام نے مٹا دیا۔"

جواب: فتاویٰ عالمگیری نے عقیقہ کو نہ مکروہ تحریمی کہا نہ مکروہ تنزیہی بلکہ عقیقہ کے جائز و

Marfat.com

مباح ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ العقیقۃ عن الغلام وعن الجاریۃ وھی ذبح شاۃ فی سابع الولادۃ وضیافۃ الناس وحلق شعرہ مباحۃ لا سنۃ ولا واجبۃ۔ یعنی پسر اور دختر کی پیدائش کے بعد ساتویں دن عقیقہ کرنا۔ بکری ذبح کرنا۔ لوگوں کی ضیافت کرنا نومولود کے بال منڈوانا جائز و مباح ہے۔ سُنّت مؤکدہ اور واجب نہیں۔ عقیقہ کے متعلق فتاویٰ عالمگیری کا یہ فتویٰ ص۳۶۲ جلد پنجم میں درج ہے اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ افسوس! کہ پروفیسر صاحب نے اپنے منصب کا لحاظ نہ کیا اور مندرجہ بالا فتویٰ سے آنکھیں بند کر کے "جامع صغیر" کی عبارت کا سہارا لیا اور بجائے جامع صغیر کے فتاویٰ عالمگیری پر اعتراض جڑ دیا۔ اگر وہ تعصب سے بچ کر عبارتِ فتاویٰ میں تامل کرتے تو ان کی سمجھ میں یہ بات آسانی سے آجاتی کہ مرتبین فتاویٰ عالمگیری نے عقیقے کے جواز کا فتویٰ دے کر یہ بتایا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عقیقہ کی بابت دو قول ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا ایک قول عقیقہ کے جواز کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرا قول کراہت کی طرف۔ لیکن ہم مرتبین فتاویٰ عالمگیری کے نزدیک عقیقہ جائز و مباح ہی ہے نہ مکروہ تحریمی ہے نہ مکروہ تنزیہی۔

سوال۔ جامع صغیر فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے اس میں عقیقہ کی کراہت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کے بانی ہیں۔ انہوں نے عقیقہ کو رسم جاہلیت قرار دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟۔

جواب۔ عقیقہ بطریقۂ اسلام اور بطریقۂ جاہلیت میں فرق ہے۔ حضرت ابوبریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کنا فی الجاھلیۃ اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاۃ ولطخ رأسہ بدمھا فلما جاء اللہ بالاسلام کنا نذبح شاۃ ونحلق رأسہ ونلطخہ بزعفران۔ یعنی زمانۂ جاہلیت میں ہم میں سے جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کر کے اس کا خون بچے کے سر پر لگا دیتا جب اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا تو ہم بچے کی پیدائش کے بعد بکری ذبح کرتے بچے کے بال منڈواتے اور بجائے خون کے اس کے سر پر زعفران لگا دیتے۔

(ابوداؤد جلد دوم ص۳۹۳)

Marfat.com

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عقیقہ کو رسم جاہلیت قرار دیا ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ تعالیٰ نے جسے مکروہ کہا ہے وہ وہی عقیقہ ہے جو بطریقۂ جاہلیت کیا جائے۔ اور جو عقیقہ بطریقۂ اسلام کیا جائے اسے نہ کسی نے مکروہ کہا ہے اور نہ رسم جاہلیت قرار دیا ہے۔

سوال: حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اما العقیقۃ فبلغنا انھا کانت فی الجاھلیۃ وقد فعلت فی اول الاسلام ثم نسخ الاضحی کل ذبح قبلہ ونسخ شھر رمضان کل صوم کان قبلہ یعنی ہمارے مشائخ کے ذریعہ یہ روایت پہنچی ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں عقیقہ تھا اور ابتدائے اسلام میں بھی کیا جاتا تھا پھر عید الضحیٰ کی قربانی نے تمام پہلے ذبیحے منسوخ کر دیئے اور ماہ رمضان کے روزوں نے تمام پہلے روزے منسوخ کر دیئے (مؤطا ص ۲۲۲)

جواب۔ پہلے تین حدیثیں ملاحظہ ہوں تاکہ فہم جواب میں آسانی رہے۔

حدیث ۱۔ یذبح عنہ یوم السابع ویحلق رأسہ ویدمی یعنی ساتویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اس کا سر منڈوایا جائے اور سر کو خون آلود کیا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے "یُدمّی" کے معنی بتائے ہیں کہ عقیقہ کے جانور کے بال لے کر اس کی گردن کی رگوں میں رکھ کر خون سے تر کئے جائیں۔ پھر بچہ کے تالو پر رکھے جائیں۔ تاکہ تالو پر دھاگہ کی مانند خون بہہ جائے (بیہقی ص ۳۰۳ جلد نہم)

حدیث ۲۔ اھریقوا عنہ دماً۔ یعنی بچہ کی طرف سے جانور کا خون بہاؤ (ابوداؤد ص ۳۹۲ جلد دوم۔ بخاری ص ۸۲۲ ج ۲۔ مشکوٰۃ ص ۳۶۲)

حدیث ۳۔ من ولد لہٗ ولد فاحب ان ینسک عنہ فلینسک۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے بچہ عطا فرمائے اور وہ بچہ کی طرف سے جانور ذبح کرنا پسند کرے تو اس کے لیے جانور ذبح کرنا جائز ہے (ابوداؤد ج ۲ ص ۳۹۲)

پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ بچے کے سر پر خون لگانا اسلام کے آتے ہی منسوخ نہیں ہوا تھا بلکہ ابتدائے اسلام میں کچھ عرصہ تک یہ رسم موجود رہی پھر مٹائی گئی۔ دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں پہلے پہل عقیقہ واجب تھا کیونکہ "اھریقوا" صیغۂ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اور تیسری حدیث سے پتہ چلا کہ عقیقہ کا وجوب صرف ابتدائے اسلام میں تھا بعد میں

Marfat.com

یہ وجوب منسوخ ہوکر جواز میں تبدیل ہوگیا۔ اسی لیے حدیث مذکور کو محدث بیہقی علیہ الرحمۃ نے عدمِ وجوب عقیقہ کی دلیل قرار دیا ہے (بیہقی جلد دوم ص۳۰۳) چونکہ حنفی علماء کی نظر دربارۂ احادیث بہت وسیع ہے اور یہ حضرات حدیث دانی میں سب پر فائق ہیں اور سب حدیثوں پر نظر رکھ کر مسائل استنباط کیا کرتے ہیں اس لیے انہوں نے تمام حدیثوں کے پیشِ نظر یہ افاضہ فرمایا ہے۔ کہ عقیقہ میں بچے کا سر خون آلود کرنا زمانۂ جاہلیت میں تھا۔ اسلام کی آمد کے کچھ عرصہ بعد جاہلیت کی یہ رسم مٹا دی گئی اور جانور کا ذبح کرنا واجب قرار دیا گیا۔ پھر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دشواریوں سے نکالنے کے لیے جو اقدامات فرمائے ان میں عقیقہ کا وجوب بھی منسوخ فرمایا۔ امام محمد علیہ الرحمۃ نے عقیقہ بطریقۂ اسلام کے جواز کے منسوخ یا مکروہ ہونے کا قول ہرگز نہیں فرمایا۔ بلکہ ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ عقیقہ میں جو رسمِ جاہلیت چلی آرہی تھی وہ بھی اور عقیقہ کو جو واجب قرار دیا گیا تھا وہ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ لہٰذا اب جو عقیقہ ہے وہ جائز و مباح ہے نہ مکروہ ہے نہ واجب جیسا کہ رمضان کے علاوہ عاشورہ و ایامِ بیض کے روزے۔

ڈھائی سال کی خاموشی کے بعد پروفیسر مذکور نے مسئلہ عقیقہ کے متعلق پھر ایک مضمون داغ دیا جس سے مسلمانوں کو خاصی پریشانی ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے ۲۲ نومبر ۱۹۸۱ء کے اخبار جنگ لاہور میں لکھا ہے کہ

اعتراض ۱۷ بدائع الصنائع حنفی فقہ کی معتبر ترین کتاب ہے اور اس کے مؤلف علامہ کاسانی کو فقہا کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں عقیقہ کے متعلق لکھا ہے کہ عید الضحیٰ کی قربانی نے پہلے سے مروج تمام قربانیوں کو منسوخ کر دیا۔ عقیقہ کا رواج عید قربانی سے پہلے کا تھا۔ اس لیے یہ منسوخ ہوگیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ منسوخ ہوجانے سے پہلے بھی عقیقہ کوئی فرض نہیں تھا بلکہ محض ایک کارِ ثواب تھا لیکن منسوخ ہوجانے کے بعد یہ کارِ ثواب بھی نہ رہا بلکہ ایک مکروہ فعل قرار پایا (ج ۵ ص۱۲۷)

جواب۔ دیگر مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی پروفیسر صاحب نے ٹھوکر کھائی۔ علامہ کاسانی

Marfat.com

نے مسئلہ عقیقہ کے متعلق اسی کتاب کے ص ۶۹ جلد ۵ میں جو کچھ لکھا ہے اسے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ج ۵ ص ۱۲۷ والی عبارت کا وہ مطلب نہیں جو پروفیسر صاحب نے سمجھا۔ علامہ موصوف نے ایک حدیث نقل کی مَنْ شَاءَ فلیعق عن الغلام شاتین ومن الجاریۃ شاۃ جو شخص عقیقہ کرنا چاہے اسے لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرنی چاہیے۔ پھر حدیث کی شرح بیان فرمائی کہ عَلَّقَ الْعَقَّ بِالْمَشِیَّۃِ وَھٰذَا اِمَارَۃُ الاِبَاحَۃِ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کو صاحبِ اولاد کی مرضی پر موقوف رکھا۔ آپ نے اس کے کرنے کا تاکیدی حکم نہیں دیا جس سے پتہ چلا کہ عقیقہ صرف جائز و مباح ہے۔ سنت مؤکدہ نہیں (ج ۵ ص ۶۹)

معلوم ہوا کہ علامہ کاسانی کے نزدیک عقیقہ کا فعل جائز و مباح ہے مکروہ نہیں البتہ اسے سنتِ مؤکدہ جاننا مکروہ ہے کیونکہ وہ تعلیق بالمشیۃ والی حدیث کے خلاف ہے یہی مضمون علامہ شامی نے ذکر کر کے فرمایا کہ عقیقہ اگرچہ بذاتِ خود مباح ہے مگر بچے کی ولادت کی خوشی میں بارادۂ شکر ذبح کرنا عبادت و اطاعت ہے فَاِنَّ النِّیَّۃَ تُصَیِّرُ الْعَادَاتِ عِبَادَاتٍ وَالْمُبَاحَاتِ طَاعَاتٍ۔ کیونکہ اچھی نیت عادت کو عبادت اور مباح کو طاعت بنا دیتی ہے (ردالمحتار ج ۵ ص ۲۰۸)

گوجرانوالہ۔

کے بعض غیر مقلد وہابیوں نے ایک کتابچہ بنام "فتاویٰ عالمگیری اور فتاویٰ حدیث" شائع کر کے فتاویٰ عالمگیری کے گیارہ مسئلوں کے مقابلہ میں کچھ حدیثیں ذکر کیں اور یہ تاثر دیا کہ یہ مسئلے ان حدیثوں کے مخالف ہیں زیرِ نظر مضمون میں ثابت کیا گیا ہے وہابیہ نے نہ فتاویٰ عالمگیری کو سمجھا ہے نہ احادیث شریفہ کو۔ اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ بھی خلافِ احادیث نہیں۔ یہ صرف اس طائفہ مخذولہ کی سمجھ کا پھیر ہے جن پر شانِ رسالت و ولایت میں گستاخی کی پھٹکار ہے۔ اور جنہوں نے دشمنِ اسلام انگریز گورنمنٹ کو خدا کی رحمت کہا تھا اور انگریزوں سے وفاداری کی سندیں حاصل کی تھیں (ملاحظہ ہو الحیات بعد الممات ص ۱۶۲، ۱۳۲) بنا بریں ذوانتقام جَلَّ مَجْدُہٗ نے ان سب کی عقلیں ناکارہ کر دی ہیں اور انہیں زمرۂ سفہاء الاحلام

Marfat.com

میں داخل کر دیا ہے۔

اعتراض ۱۸۔ فتاوی عالمگیری میں ہے (کھجور کی شراب) نبیذ اگر نو پیالے پیئے تو نشہ نہ آئے دسواں پیالہ پینے کے بعد نشہ آئے تو حد جاری نہیں کی جائے گی (جلد ۵ صفحہ ۱۳۸ سطر ۵) حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز نشہ لاتی ہے وہ شراب ہے۔ کل مسکر خمر (مسلم) اور آپ نے فرمایا جو چیز بہت نشہ لاتی ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے (ابوداؤد) (کتابچہ وہابیہ)

الجواب۔ غیر مقلد وہابیوں نے فتاویٰ عالمگیر کی اصل عبارت کا بُری طرح جھٹکا کیا اور حلیہ بگاڑا۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو۔ اذا شرب تسعۃ اقداح من نبیذ التمر فاوجر العاشر فسکولم یحد لان السکر یضاف الی ما ھو اقرب یعنی اگر ایک شخص نے نو پیالے نبیذ تمر کے پیئے پھر دسواں پیالہ اس کے منہ میں ڈالا گیا۔ پس نشہ میں ہو گیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی۔ اس واسطے کہ سکر اس کے اقرب کی طرف مضاف ہوتا ہے (عربی ص ۱۳۸ ج ۵ مترجم مطبوعہ نولکشور ص ۱۸ ج ۳)

وجہ اس کی یہ ہے کہ نبیذ تمر شراب بمعنی خمر کا نام نہیں بلکہ اس پانی کا نام ہے جس میں چند کھجوریں ڈال دی جائیں۔ تاکہ پانی میٹھا ہو جائے جس طرح آج کل شکر ڈال کر پانی میٹھا کیا جاتا ہے اسی طرح زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجوریں ڈال کر پانی میٹھا کیا جاتا تھا۔ شرعاً اس مشروب کا پینا بلا کراہت درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بارہا نوش فرمایا۔ چند حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

حدیث ۱:۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے اس پیالے میں رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درج ذیل مشروبات پلانے کی سعادت حاصل کی (العسل والنبیذ والماء واللبن) شہد نبیذ پانی اور دودھ۔

حدیث ۲:۔ ام المؤمنین سیدتنا الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ کنا ننبذ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سقاء ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشک میں نبیذ تیار کیا کرتی تھیں۔

Marfat.com

حدیث ۳ :۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع رات پانی میں کھجوریں ڈال دی جاتیں پھر آپ اس نبیذ تمر کو صبح سے لے کر تیسرے دن کی عصر تک جب چاہتے نوش فرماتے۔ فان بقی شیئ سقاہ الخادم او امربہ فصب پھر اگر کچھ بچ رہتا تو خادم کو پلا دیتے یا حکم فرماتے تو گرا دیا جاتا (مشکوٰۃ شریف ص۳۷۲)

تیسری حدیث کی تشریح میں محدثین کرام نے فرمایا کہ اگر بوجہ گرمی وغیرہ کے نبیذ میں نشہ پیدا ہو جاتا (جس کی پہچان رنگ بدلنے جھاگ پیدا ہونے وغیرہ سے ہو جاتی ہے)۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گرانے کا حکم دے دیتے اور اگر نشہ پیدا نہ ہوتا تو خادم کو پلا دیتے (مرقاۃ جدید ص۲۲۷ جلد ۸) ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبیذ تمر عمدہ و پسندیدہ مشروب ہے۔ البتہ اسے اگر زیادہ دیر تک رکھا جائے تو اس میں کبھی نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مشروب نشہ آور ہونے سے پہلے بلا کراہت حلال ہے اور نشہ آور ہونے کے بعد بلا شبہ حرام ہے۔ فتاویٰ عالمگیری کی مندرجہ عبارت ان احادیث کی روشنی میں مرتب فرمائی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے نبیذ تمر کے ایسے نو پیالے پیئے جن میں نشہ نہ تھا اور دسواں پیالہ جس میں نشہ تھا اس نے خود نہ پیا بلکہ کسی نے اس کے منہ میں زبردستی ڈال دیا جس سے وہ نشہ میں ہو گیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی کیونکہ جس نبیذ کو اس نے خود پیا اس میں نشہ نہ تھا اور جس میں نشہ تھا اسے اس نے خود نہ پیا جب نشہ آور چیز بغیر اکراہ کے خود نہ پی جائے تو حد نہیں لگائی جا سکتی قرآن مجید میں ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ یعنی جو شخص حرام چیز کے کھانے یا پینے پر مجبور ہوا تو اس پر کوئی گناہ نہیں (البقرہ ع ۲۱)

وہابی جہالتیں : فتاویٰ عالمگیر پر یہ اعتراض وہابیہ کی درج ذیل جہالتوں کا نتیجہ ہے۔ • اُوجِرَ العَاشِرَ کا ترجمہ یہ ہے " دسواں پیالہ اس کے منہ میں زبردستی ڈالا گیا "۔ وہابیہ کو اس لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں آیا۔ انہوں نے اپنی جہالت کا ماتم کرنے کی بجائے فتاویٰ عالمگیر پر اعتراض کر دیا۔ ؎

شرم ان کو مگر نہیں آتی

Marfat.com

• فتاویٰ عالمگیر کی عبارت نبیذ تمر کے متعلق ہے اور وہابیہ نے اس کے مقابل جو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ وہ بجائے نبیذ کے خمر سے متعلق ہیں ان بیچاروں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ خمر میں اور نبیذ میں کیا فرق ہے۔ تو کیا ان کی "پوتھیاں" اس لائق ہیں کہ فتاویٰ عالمگیر پر اعتراض کرسکیں۔

• کتب حدیث میں نبیذِ تمر سے متعلق بکثرت حدیثیں پائی جاتی ہیں لیکن نام کے اہل حدیث ان تمام حدیثوں سے نرے جاہل ہیں۔ ورنہ فتاویٰ عالمگیر پر اعتراض کرتے وقت ضرور شرماتے۔

• فتاویٰ عالمگیر کی مندرجہ عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے وہابیہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ "ان فتاووں میں ام الخبائث کے متعلق اس قدر وسعت ہے تو دوسری برائیاں کیسے ختم ہوسکتی ہیں"۔ جس مشروب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا ہو اسے ام الخبائث کہنا وہابیہ کی کتنی بڑی بے ایمانی ہے۔

وہابی گرچہ اخفا میکند بغضِ نبی لیکن
نہاں کے مانند آں رازے کزو سازند محفلہا

وہابی مشروبات: سید الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروب (نبیذ تمر) پر ام الخبائث جیسے ناپاک لفظ کا اطلاق کرنے اور فتاویٰ عالمگیری پر احمقانہ اعتراض کرنے والے وہابیوں کے اپنے پسندیدہ مشروبات و مطعومات کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔

پہلا مسئلہ: "اگر کتا کنویں میں گر پڑے اور پانی کا رنگ یا مزہ یا بو تبدیل نہ ہو تو وہ پاک ہے" (فتاویٰ نذیریہ جلد ۱ ص۳۳۵)

دوسرا مسئلہ: زیادہ ترجیح قول یہ ہے کہ کتے اور خنزیر کے سوا سب جانوروں کی منی پاک ہے (فقہ محمدی جلد ۱ ص۱۳)

توضیح: وہابی مذہب میں بندر گیدڑ ریچھ ہاتھی وغیرہ کی منی پاک ہے اور اگر کتا کنویں میں گر پڑے اور اس کی منی کو پیشاب وغیرہ پانی میں حل ہو جائے تو وہ بھی پاک ہے جب تک اس کا رنگ وغیرہ نہ بدلے۔ پلید اور ام الخبائث تو صرف وہ پانی ہے جس میں کھجوریں ڈالی جائیں۔

Marfat.com

کسی نے سچ کہا۔

خدا جب دین لیتا ہے حماقت آہی جاتی ہے

تیسرا مسئلہ: "جب تک پانی کا کوئی وصف نہ بدلے قلیل ہو یا کثیر نجاست گرنے سے وہ نجس نہیں ہوتا۔" اہل حدیث نے اسی کو اختیار کیا ہے (لغات الحدیث جلد ۲ صـ ۲۲ ن) یعنی پاؤ بھر پانی میں پاؤ بھر پیشاب کیا جائے اور پانی کا وصف نہ بدلے تو وہابی مذہب میں اس کا پینا جائز ہے۔

نجدیا کتنی ہی گندی ہے طبیعت تیری

چوتھا مسئلہ: "خون کی نجاست پر کوئی قوی دلیل نہیں ہے۔ خصوصاً حلال جانور کے خون کی نجاست پر البتہ حیض کا خون نجس ہے اور اصل اشیاء میں طہارت ہے" (لغات جلد ۲ صـ ۶۸) یعنی وہابی مذہب میں خون نفاس خون استحاضہ اور وہ خون جو پھوڑوں سے نکلے پاک اور حلال ہے پانی میں ملا کر پینے سے عمدہ مشروب کا کام دیتا ہے۔ جیسے کو تیسا۔

پانچواں مسئلہ: "جو روٹی شراب ملا کر پکائی جائے اس کا کھانا درست ہوگا جن ادویہ میں شراب کی روح یعنی الکحل شریک ہوتی ہے اس کا بھی استعمال درست ہوگا ہمارے علماء اہل حدیث میں سے مفتیٔ مصر نے ایسا ہی فتویٰ دیا ہے۔ (لغات جلد ۱ صـ ۶ ام)

چھٹا مسئلہ: "کپڑے یا جسم میں شراب لگ جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں کیونکہ شراب نجس نہیں ہے" (لغات جلد ۲ صـ ۸ ن)

وہابی مذہب میں گیارہویں حرام اور شراب کی روٹی اور شراب آمیز ادویہ کا استعمال جائز ہے۔ کپڑے یا جسم میں شراب لگ جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں یہ ہے ان کی فقاہت سے محرومی و فتاویٰ عالمگیری کی دشمنی کا نتیجہ۔ جس کے باوجود انہوں نے فتاویٰ عالمگیری کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے۔

وہابی امامت: وہابیہ کی اس نجاست پسندی و بدعقیدگی کی وجہ سے علماء اہل سنت و جماعت کا متفقہ فتویٰ ہے کہ وہابی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنی منع ہے

52937

Marfat.com

اگر غلطی سے پڑھ لی گئی تو اس نماز کا دہرانا ضروری ہے کیونکہ دل کو اعتقادی نجاست سے اور اور لباس و جسم کو شراب، پیشاب، خون وغیرہ کی نجاستوں سے پاک نہ رکھنے والا شخص امام نہیں بن سکتا ہے

ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر

اعتراض ۱۹: فتاویٰ عالمگیری میں ہے لایقتل الرجل بعبدہ یعنی جو شخص اپنے غلام کو قتل کر دے اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ (فتاویٰ عالمگیر جلد ۶ صہ ۸ سطر ۲)

حالانکہ حدیث میں ہے من قتل عبدہ قتلناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم بدلے میں اس کو قتل کریں گے (ابو داؤد)

الجواب اوّلاً: غیر مقلد وہابیوں نے ترجمۂ حدیث میں "بدلے میں" کے الفاظ اپنی طرف سے بڑھاتے ہیں۔ حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا معنے "بدلے میں" کیا جائے۔ یہ وہابیہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّدًا فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَہٗ مِنَ النَّارِ۔ جس نے مجھ پر افترا باندھا اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے (مشکوٰۃ صہ ۳۵)

ثانیاً: اس مسئلہ کی بابت کتبِ حدیث میں صرف وہی حدیث مذکور نہیں جسے وہابیہ نے ذکر کیا اور اپنی مرضی کا ترجمہ گھڑ کر اعتراض کیا بلکہ اور حدیثیں بھی ہیں جنہیں نام کے "اہل حدیث" نہیں جانتے۔ ملاحظہ ہوں۔

۱۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں مِنَ السُّنَّۃِ اَنْ لَا یُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ۔ سُنّت یہ ہے کہ کسی آزاد شخص کو کسی غلام کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے (بیہقی جلد ۸ صہ ۳۴) بلکہ قتل کے علاوہ دوسری سزا دی جائے اگر اس نے بلاوجہ قتل کیا۔

۲۔ حضرت جریر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھاگ گیا۔ فَاَخَذَہٗ فَضَرَبَ عُنُقَہٗ انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا (نسائی جلد ۲ صہ ۱۶۸)

Marfat.com

۳۔ ان ابابکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کانا لایقتلان الحر یقتل العبد۔
سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آزاد شخص کو قتل نہ کرتے تھے جس نے کسی غلام کو قتل کیا ہوتا (بیہقی جلد ۸ صفحہ ۳۴) بلکہ یہ فعل اگر بلا وجہ سرزد ہوتا تو قتل کے علاوہ دوسری سزا دیتے۔

۴۔ من قتل عبدہ کے راوی حسن عن سمرۃ ہیں۔ ان کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ لا یقتل حر بعبد۔ لا یقاد الحر بالعبد کسی آزاد شخص کو کسی غلام کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ آزاد شخص سے غلام کا قصاص نہ لیا جائے (ابوداؤد صفحہ ۶۲) بلکہ دوسری سزا دی جائے فتاویٰ عالمگیری کا مندرجہ مسئلہ ان مقدس حدیثوں کی روشنی میں مرتب فرمایا گیا ہے۔ نام نہاد اہل حدیث چونکہ ان حدیثوں سے بالکل بے خبر ہیں اس لئے انہوں نے بنا بر جہالت فتاویٰ عالمگیری پر اعتراض کر دیا۔

سوال: یہ چار حدیثیں حدیث ابوداؤد صفحہ ۶۲ "من قتل عبدہ قتلناہ" کے مخالف و معارض ہیں تو ان مختلف حدیثوں میں تطبیق کس طرح ہوگی۔

جواب: محدثین کرام نے من قتل عبدہ قتلناہ کے جو معنے بیان کئے ہیں ان کے پیش نظر کسی قسم کا تعارض باقی نہیں رہتا اور سب حدیثیں باہم منطبق ہو جاتی ہیں (۱) لفظ "قتلناہ" جان سے مار دینے کی بجائے سزائے سخت کے معنے میں استعمال ہوا ہے جس طرح چوتھی بار شراب پینے والے کے لیے حدیث شریف میں لفظ "فاقتلوہ" وارد ہوا ہے اور اس کا معنے یہ نہیں کہ اس شرابی کو "جان سے مار دو" بلکہ معنے یہ ہیں کہ "اسے سخت سزا دو" کیونکہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک ایسا شخص لایا گیا۔ جس نے چار مرتبہ شراب پی تھی تو آپ نے اسے جان سے نہیں مارا بلکہ سخت سزا دی تھی (مشکوٰۃ صفحہ ۳۱۵) تو جو شخص اپنے غلام کو بلا وجہ قتل کرے گا اسے عند الاحناف قتل کی بجائے سخت سزا دی جائے گی۔

سوال: پھر اس جگہ "سخت سزا" کی بجائے لفظ "قتل" کیوں استعمال ہوا ہے۔

جواب: قتل غلام بلا وجہ کی سزا کو بطور زجر مجازاً قتل سے تعبیر کیا گیا ہے جس طرح قرآن مجید میں سیئۃ کی سزا کو سیئۃ کہا گیا ہے (شوریٰ ع ۴) حالانکہ جرم کی سزا عدل و

Marfat.com

انصاف پر مبنی ہونے کی وجہ سے سیئۃ نہیں ہوتی بلکہ حسنۃ ہوا کرتی ہے۔ (۲) عبدہٗ سے مراد وہ آزاد شخص ہے جو پہلے غلام تھا پھر آزاد کیا گیا آزادی کے بعد اگر اسے اس شخص نے قتل کردیا۔ جس کا وہ پہلے غلام تھا تو قاتل کو بطور قصاص قتل کرنا درست ہے کیونکہ اس نے جسے قتل کیا ہے وہ اب اس کا غلام نہیں بلکہ آزاد شخص ہے۔ آزاد ہونے کے بعد اگرچہ وہ شخص حقیقتاً غلام نہیں رہا لیکن نسبت سابقہ کا لحاظ رکھ کر اسے بطور مجاز غلام کہنا صحیح ہے۔ جس طرح طلاق دینے والے جب اپنی بیویوں کو طلاق دے کر نکاح سے خارج کر دیتے ہیں تو وہ ان کے حقیقتاً خاوند نہیں رہتے مگر انہیں قرآن مجید نے بلحاظ نسبت سابقہ "خاوند" کہا ہے (ازواجھن البقرہ ع ۳۰) یونہی خاوندوں کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ حقیقتاً "بیویاں" نہیں رہتیں لیکن قرآن مجید سورۃ النساء ع ۲ میں انہیں بطور مجاز بلحاظ نسبت سابقہ بیویاں (ازواجکم) کہا گیا ہے۔ (حاشیہ سندھی بر نسائی جلد ۲ صفحہ ۲۴۰)

(۳) وہابیہ کی جہالت ملاحظہ ہو کہ حدیث مذکور کی بابت ان کے اپنے مولویوں نے جو کچھ لکھا ہے یہ اس سے بھی بے خبر ہیں چنانچہ وہابی مولوی وحید الزمان نے لکھا ہے کہ "اکثر علماء کے نزدیک یہ حدیث (من قتل عبدہ قتلناہ) منسوخ ہے وہ کہتے ہیں۔ آزاد شخص غلام کے عوض قتل نہ کیا جائے گا۔ اور دلیل اس کی آیت قرآنی ہے اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ (سورۃ البقرہ ع ۲۶) اور یوں نہیں فرمایا گیا اَلْحُرُّ بِالْعَبْدِ اور اس حدیث کو زجر اور تشدید اور تخویف پر محمول کیا ہے تاکہ لوگ غلاموں کو قتل کرنے سے باز رہیں (لغات الحدیث جلد ۵ صفحہ ۲۳ ق) فتویٰ حسن (لا یقتل حر بعبد) کو بھی اس حدیث کے منسوخ ہونے کی دلیل قرار دیا گیا ہے کیونکہ اگر منسوخ نہ ہوتی تو وہ اپنی روایت کے خلاف فتویٰ نہ دیتے (ابوداؤد صفحہ ۶۲۰ حاشیہ ۴)

سوال: ابوداؤد کے اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ حسن نے جو حدیث "مَنْ قَتَلَ عَبْدَہٗ" روایت کی ہے بعد میں انہیں یہ حدیث بھول گئی تھی۔ بنا بریں انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا اگر انہیں وہ حدیث یاد ہوتی پھر اس کے خلاف فتویٰ دیتے تو البتہ اسے دلیل نسخ

Marfat.com

قرار دیا جا سکتا تھا لیکن یہاں یہ صورت نہیں۔

جواب: دعوئے نسیان صرف مبنی بر گمان ہے ظاہر یہ ہے کہ حضرت حسن بھولے نہیں بلکہ انہوں نے حدیث مذکور کا وہی مطلب لیا جس کا اوپر ذکر ہوا اور جسے اکابر امت نے پسند فرمایا۔ وہابیہ پر تعجب ہے کہ نسیان کے مدعی کی تقلید جامد تو بلا تأمل کر لیتے ہیں لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کو شرک بتاتے ہیں (فتاویٰ نذیریہ جلد ا ص۱۶۹) حالانکہ وہ اس تقلید جامد کے سبب خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی ان روایات و معمولات کی مخالفت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جن کا بحوالہ بیہقی (جلد ۸ ص۲۴۳-۲۴۴) ذکر کیا جا چکا ہے۔

آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے؟

اعتراض نمبر۲: فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ اگر قاضی چوری کے جرم میں کسی کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کرے لیکن صاحبِ مال چور کو اپنا مال ہبہ کر دے تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا (جلد نمبر۲ ص۱۸۴ سطر نمبر۶)

حالانکہ حدیث میں ہے۔ حضرت صفوان بن امیہ کی چادر چوری ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ حضرت صفوان نے چور کے حق میں سفارش کی تو آپ نے فرمایا یہ (معافی) میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہیں دی۔ (ابوداؤد)

الجواب اولاً: وہابیہ نے اس جگہ حسبِ عادت بہت بڑا ظلم کیا اور فتاویٰ عالمگیری کے اہم جملہ سَلَّمَهَا اِلَيْهِ کا ترجمہ حذف کر دیا۔ حالانکہ اس کے بغیر عبارت فتاویٰ کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہو سکتا۔ سَلَّمَهَا اِلَيْهِ کا مطلب یہ ہے کہ مالک نے چوری کا مال صرف زبانی طور پر ہبہ نہیں کیا بلکہ وہ مال چور کے حوالے بھی کر دیا تاکہ چور مال کا صحیح طور پر مالک بن جائے۔ کیونکہ قبضہ کے بغیر ہبہ میں ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ (تفصیل آگے آئے گی)

ثانیاً: فتاویٰ عالمگیری کے اس مسئلہ کو حدیثِ صفوان کے ذکر کردہ ترجمہ کے مخالف بتانا وہابیہ کے ناقص العقول ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ فتاویٰ میں جو صورت ذکر کی گئی ہے۔ اس

Marfat.com

میں مال ہبہ کرنے اور سپرد کرنے کا ذکر ہے اور ترجمہ حدیث میں صرف سفارش کرنے و معافی دینے کا ذکر ہے۔ یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ ہبہ کرنے و سپرد کرنے سے چور کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اور صرف سفارش کرنے و معاف کرنے سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی لہذا پہلی صورت میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ اور دوسری صورت میں لازماً کاٹا جائے گا۔ وہابیہ نے جو صورت حدیث صفوان کی بیان کی ہے وہ صورت فتاویٰ عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ مگر انہیں اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے نظر نہیں آئی۔ ملاحظہ ہو۔ لَوْ اَمَرَ الْاِمَامُ بِقَطْعِ سَارِقٍ فَعَفَا الْمَسْرُوْقُ مِنْهُ كَانَ عَفْوُهٗ بَاطِلًا اگر امام نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد صاحب مال نے چور کو معاف کر دیا تو یہ معافی باطل ہوگی (اور چور کا ہاتھ ضرور کاٹا جائے گا) ص۱۷۲۔ جلد ۲۔

سوال: حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضرت صفوان نے کہا هُوَ عَلَيْهِ یہ چادر چور پر صدقہ ہے (مشکوٰۃ ص۳۱۳) اور ہبہ کی طرح صدقہ سے بھی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر ہاتھ کیوں کاٹا گیا؟

جواب: ہبہ کی طرح صدقہ میں بھی قبضہ شرط ہے قبضہ کے بغیر نہ ہبہ تام ہوتا ہے نہ صدقہ۔ حضرت صفوان نے هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ تو کہا لیکن چادر اس کے سپرد نہ کی۔ لہذا ملکیت ثابت نہ ہوئی تو ہاتھ کاٹا گیا۔ یہ جواب سمجھنے کے لیے درج ذیل حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

پہلی حدیث: سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال شریف سے کچھ پہلے اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اِنِّیْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ مِنْ مَالِیْ جَذَاذَ عِشْرِيْنَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَذَذْتِيْهِ وَاحْتَزْتِيْهِ كَانَ لَكِ فَاِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ۔ پیاری بیٹی میں نے تجھے اپنے مال میں سے بیس وسق آمدنی والے کھجور کے درخت ہبہ کیے تھے اگر تو اس پر قبضہ کر لیتی تو وہ تیری ملک ہو جاتے وہ آج سب وارثوں کا مال ہیں (بیہقی جلد ۶ ص۱۷۰ مؤطا امام محمد ص۲۶۷ ریاض نضرۃ جلد اول ص۱۶۰)

دوسری حدیث: سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ لَا نُحْلُ اِلَّا لِمَنْ

Marfat.com

حَازَہٗ وَقَبَضَہٗ"۔ ہبہ وصدقہ صرف اس شخص کے لیے حلال ہے جس نے اپنے پاس جمع کیا اور قبضہ کیا (البدایہ فی تخریج احادیث الہدایہ ص ۳۰۳)

تیسری حدیث: سادا تنا عثمان غنی ابنِ عمر ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے تھے۔ "لَا تَجُوْزُ صَدَقَۃٌ حَتّٰی تُقْبَضَ" جب تک صدقہ پر قبضہ نہ کیا جائے جائز نہیں ہوتا (بیہقی ص ۱۷۰ جلد ۶)

چوتھی حدیث: ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن روایت فرماتے ہیں کہ جب حضرت صفوان کی چادر چوری ہوئی فَاسْتَیْقَظَ فَصَاحَ بِہٖ فَاُخِذَ تو وہ فوراً جاگ پڑے اور چلائے تو لوگوں کے تعاون سے چور پکڑ لیا گیا (ابو داؤد ص ۲۰۳ جلد ۲)

پہلی تین حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہبہ وصدقہ کے تام ہونے کے لیے قبضہ شرط ہے۔ بغیر قبضہ کے ہبہ وصدقہ تام نہیں ہوتا اور اس میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی اور چوتھی حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضرت صفوان نے چور سے چادر لے لی تھی۔ اور جب ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا تو انہوں نے صرف زبان سے ھُوَ عَلَیْہِ صَدَقَۃٌ کہا مگر چور کے حوالے نہیں کی تو اس کی ملکیت ثابت نہ ہوئی لہٰذا بتقاضائے قانونِ شریعت اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔

حدیثِ مضطرب: نیز حدیث مذکور بسبب مضطرب ہونے کے لائق احتجاج نہیں کیونکہ بعض روایات میں یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا بیان کیا گیا ہے اور بعض میں مدینہ طیبہ کا (نسائی جلد ۲ ص ۲۵۴-۲۵۵) بعض میں سَرَقَ بُرْدَۃً کے الفاظ مذکور ہیں اور بعض میں اِخْتَلَسَہَا کے۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ مختلس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا (ابو داؤد ص ۲۰۳ جلد ۲) اور بعض میں ھُوَ عَلَیْہِ صَدَقَۃٌ (یہ چادر اس پر صدقہ ہے) آیا ہے اور بعض میں قَدْ تَجَاوَزْتُ (میں نے در گزر کی) اور بعض میں اَنَا اَبِیْعُہٗ (میں اس سے بیچ دیتا ہوں) یونہی بعض میں ہے کہ حضرت صفوان چوری کے وقت چادر پر سوئے ہوئے تھے اور بعض میں ہے کہ وہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے (بیہقی ص ۲۶۵ ص ۲۶۶)

Marfat.com

جب الفاظ حدیث میں اس قدر اختلاف ہے کہ ان میں تطبیق نہیں ہو سکتی تو وہابیہ کا اس کی آڑ لے کر فتاویٰ عالمگیری کے اس مسئلہ پر معترض ہونا جو احادیثِ معتبرہ رجیحہ سے ثابت ہے کتنی بڑی حماقت و جہالت ہے۔ کیا ان جہلاء کو اہلِ حدیث کے نام سے موسوم کرنا محدثین کرام کی توہین نہیں ؟

چہ نسبتِ خاک را با عالم پاک

اعتراض ۲۱ : فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ غیر شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کو بطورِ سزا شہر سے نکالنا جائز نہیں (جلد دوم صہ ۱۴۶)

حالانکہ حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر باکرہ غیر شادی شدہ عورت غیر شادی شدہ مرد سے زنا کرے تو انہیں سو سو دُرّے مارے جائیں اور ایک سال کے لیے جلاوطن کر دیا جائے (مسلم)

الجواب : اس جگہ بھی وہابیہ نے جھوٹ بولا اور ظلم کیا۔ جو عبارت فتاویٰ عالمگیری میں لکھی ہوئی ہے اسے نقل نہیں کیا اور جسے نقل کیا ہے وہ فتاویٰ میں موجود نہیں۔ اصل عبارت فتاویٰ عالمگیری کی یہ ہے لَا یُجْمَعُ بَیْنَ جِلْدٍ وَّرَجْمٍ فِی الْمُحْصَنِ وَلَا بَیْنَ جِلْدٍ وَّنَفْیٍ فِی الْبِکْرِ وَاِنْ رَاٰی الْاِمَامُ فِیْ ذَالِکَ مَصْلَحَۃً غَرَّبَ بِقَدْرِ مَا یَرٰی وَذَالِکَ تَعْزِیْرٌ وَّسِیَاسَۃٌ لَا حَدٌّ ۔ یعنی اگر زانی محصن (شادی شدہ) ہو تو اسے صرف سنگسار کیا جائے گا کوڑے نہ مارے جائیں گے۔ اور اگر محصن (شادی شدہ) نہیں تو اسے حد کے طور پر صرف کوڑے مارے جائیں گے اور شہر بدر کرنے میں اگر امام المسلمین کو مصلحت نظر آئے تو وہ کوڑے مار کر حسب منشا بطور تعزیر و سیاست شہر بدر بھی کر سکتا ہے۔ (صہ ۱۴۶ جلد ۲ سطر ۳۱ ۔ ۳۲)

معلوم ہوا کہ زانی غیر محصن کو بطورِ سزا شہر بدر کرنے کو فتاویٰ عالمگیری نے ناجائز نہیں کہا بلکہ جائز کہا ہے اور اس سزا کا نام حد کی بجائے تعزیر رکھا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید

Marfat.com

میں زانی غیر محصن کی حد صرف سنّو کوڑے بیان کی گئی ہے شہر بدر کرنے کو قرآن مجید نے حد کا جزو قرار نہیں دیا۔ (سورۃ النور ع ۱) حنفی علماء نے قرآن و حدیث میں فرق مراتب کا لحاظ رکھ کر اس سزا کا نام حد رکھا ہے جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا اور اس سزا کو تعزیر کہا ہے جسے حدیث شریف نے ذکر فرمایا۔ غیر مقلد وہابیہ صرف نام کے اہلِ حدیث ہیں ان بیچاروں کو نہ قرآن و حدیث کی سمجھ ہے نہ فقہ کی نہ ان میں فرقِ مراتب کی اہلیت رکھتے ہیں۔ حالانکہ علماء پر لازم ہے کہ اصولِ شرعیہ میں فرقِ مراتب کا لحاظ رکھ کر گفتگو کیا کریں۔

؎ گر فرقِ مراتب نہ کنی زندیقی

بلکہ حدیث شریف سے صراحتہً ثابت ہے کہ شہر بدر کرنا حد نہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری سزا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَضٰی فِیْمَنْ زَنٰی وَلَمْ یُحْصِنْ بِنَفْیِ عَامٍ وَاِقَامَۃِ الْحَدِّ عَلَیْہِ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی غیر محصن پر دو سزاؤں کا فیصلہ فرمایا سال بھر کے لیے شہر بدر کرنا اور حد لگانا (بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۱۰) معلوم ہوا شہر بدر کرنے اور حد لگانے میں فرق ہے۔ یہ دونوں الگ الگ سزائیں ہیں ان میں اتحاد نہیں مغایرت ہے کیونکہ حدیث مذکور میں اِقَامَۃِ الْحَدِّ عَلَیْہِ کا نفیِ عَامٍ پر عطف فرمایا گیا ہے اور عطف مغایرت کو چاہتا ہے۔ اگر شہر بدر کرنا حد ہی ہوتا تو اس پر "اقامۃ الحد" کا عطف نہ کیا جاتا۔ پتہ چلا کہ جو کچھ اس حدیث نے ثابت فرمایا ہے وہی کچھ فتاویٰ عالمگیری نے بیان کیا ہے۔ یعنی شہر بدر کرنا حد کے علاوہ دوسری سزا ہے اور حد صرف سنّو کوڑے لگانے کا نام ہے۔ اگر وہابیہ کو اس حدیث کا علم ہوتا تو فتاویٰ عالمگیری پر اعتراض نہ کرتے۔ مگر افسوس کہ باوجود جہلاء ہونے کے خود کو زمرۂ علماء میں شامل سمجھتے ہیں۔

؎ آنکس کہ نداند و بداند کہ بداند
در جہل مرکب تا ابد بماند

حنفی مذہب کی عمدگی: بعض حدیثوں میں لفظ تغریب یا لفظ نفی جو وارد ہوا ہے۔

Marfat.com

اس کے دو معنے بیان کئے جاتے ہیں (۱) زانی وزانیہ کو جلا وطن کرنا (۲) ان دونوں کو قید خانے میں بند کر دینا۔ پہلے معنے پر وہابیہ کا اصرار ہے اور دوسرا معنے مرتبین فتاویٰ عالمگیری کے ہاں مختار ہے (جلد ۲ صفحہ ۱۴۷) اگر پہلے معنے پر عمل کر کے زانی وزانیہ کو ملک سے باہر نکالا جائے تو ان کی اصلاح نہ ہو سکے گی۔ بلکہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائیں گے۔ اپنے ملک میں خویش و اقارب اور واقف کاروں کی وجہ سے بار بار اس حرکتِ خبیثہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا اور ملک سے باہر نکال دیئے جائیں تو یہ بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور عصمت فروشی و عصمت دری کے لیے دونوں بالکل آزاد ہو جائیں گے (العیاذ باللہ) اور اگر دوسرے معنے پر عمل کر کے دونوں کو اپنے ہی ملک کے قریبی قید خانہ میں بند کر دیا جائے مرد کو مردانہ وارڈ میں اور عورت کو زنانہ وارڈ میں۔ تو اس گھناؤنے جرم کے دوبارہ ارتکاب سے دونوں محفوظ ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حنفی مذہب پر جس طرح آج سے کئی سو سال پہلے سے عمل ہوتا رہا ہے یونہی آج بھی اس مذہب مہذب پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ بخلاف وہابی مذہب کے کہ وہ جس صدی میں انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی جلی شرارت کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اس صدی میں بھی اس پر عمل کرنا ممکن نہیں۔

اعتراض ۲۲: فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ "کوئی شخص کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کرتا ہے وہ انکار کرتی ہے کہ نکاح نہیں ہوا۔ یہ اسے سو درہم دینے کر کے آمادہ کرتا ہے کہ تو نکاح کا اقرار کرلے تو اس کے اس (جھوٹے) اقرار سے جو شاہدوں کے روبرو ہوا۔ حنفی مذہب میں سچ مچ نکاح ہو جائے گا اور ان دونوں کو آپس میں مجامعت کرنی وغیرہ جائز ہوگی (جلد ۱ صفحہ ۲۱۰ مطبوعہ مصر)

حالانکہ حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لاتے ہو تم میں سے کوئی دوسرے کی بہ نسبت دلیل و حجت پیش کرنے میں زیادہ زبان آور ہو اور میں اس کی زبان سن کر اس کے مطابق فیصلہ کر دوں تو وہ بھائی کے حق کو ہرگز قبول نہ کرے کیونکہ میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں (بخاری)

Marfat.com

الجواب: حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض پیش گوئیوں میں فرقہ ضالہ وہابیہ کے متعلق "سفہاء الاحلام" کا لفظ ذکر فرمایا ہے (نسائی جلد ۲ صفحہ ۱۷۳) یعنی وہ لوگ ناقص العقل ہوں گے۔ فتاویٰ کے اس مسئلہ کو حدیث مذکور کے مخالف بتانا "سفہاء الاحلام" میں داخل ہونا ہے۔ اس مسکین فی العلم نے نہ حدیث کو سمجھا ہے نہ فتاویٰ عالمگیر کو۔ (۱) فتاویٰ میں دعویٰ نکاح کا ذکر ہے اور حدیث میں دعویٰ مال کا۔

(۲) فتاویٰ میں دعویٰ کو شہادت کے ساتھ ثابت کرنے کا ذکر ہے اور حدیث میں شہادت کا ذکر ہرگز نہیں بلکہ اس امر کی تصریح ہے کہ دو شخصوں نے مالِ وراثت میں جھگڑا کیا تھا۔ اور دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہ تھے (مشکوٰۃ صفحہ ۳۲۷)

(۳) فتاویٰ میں دعویٰ نکاح کے ساتھ عورت کو درہم دے کر راضی کر لینے کا ذکر ہے اور حدیث میں دوسرے فریق کو کچھ دے کر راضی کرنے کا ذکر نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مال کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اپنی زبان آوری کے سبب قاضیٔ اسلام سے اپنے حق میں غلط فیصلہ کرانے میں کامیاب ہو جائے تو اس غلط فیصلے سے حاصل کیا ہوا مال اس کے حق میں حلال نہیں ہوگا۔ حرام ہی رہے گا قاضی کا فیصلہ اس حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔

لیکن عبارتِ فتاویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت غیر منکوحہ پر نکاح کا جھوٹا دعویٰ کرے اور گواہوں کی موجودگی میں عورت کو درہم دے کر اقرارِ نکاح پر رضامند کر لے اور قاضی ان کے نکاح کا فیصلہ کر دے تو وہ دونوں اگرچہ قبل ازیں میاں بیوی کے رشتہ میں منسلک نہ تھے۔ لیکن قاضی کے فیصلہ کے بعد رشتہ زوجیت میں منسلک ہو جائیں گے اور قاضی کا فیصلہ انشاءِ نکاح کا فائدہ دے گا۔ کیونکہ نکاح میں جو کچھ ضروری ہوتا ہے یا عام طور پر پایا جاتا ہے وہ سب کچھ صورت مفروضہ میں پایا گیا۔ (۱) نکاح خواں بھی ہے یعنی قاضی اسلام۔ (۲) حق مہر بھی ہے یعنی وہ درہم جن پر عورت کو رضامند کیا گیا (۳) گواہ بھی ہیں یعنی وہ دو شخص جنہیں قاضی کے سامنے پیش کیا گیا (۴) عورت مرد کی رضامندی بھی ہے کیونکہ مرد پہلے راضی تھا

Marfat.com

اور عورت درہم لے کر راضی ہوگئی اور انشاءِ نکاح (فیصلۂ قاضی اسلام) کے وقت دونوں رضامند تھے۔

یہ صورت دعویٰ مال میں نہیں بن سکتی۔ کیونکہ قاضی گواہوں کی موجودگی میں مرد عورت کی رضامندی سے دونوں کا نکاح تو کر سکتا ہے مگر مال کے جھوٹے مدعی کے لیے محض اس کی زبان آوری سے کسی کا مال حلال نہیں کر سکتا۔ بنابریں مسئلہ مذکورہ کے آخر میں لکھا ہے۔ وَالَّا لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ وَلَا يَسَعُهَا الْمُقَامُ مَعَ زَوْجِهَا۔ اگر یہ کارروائی گواہوں کے بغیر کی گئی تو نہ نکاح منعقد ہوگا نہ اس عورت کا اس مرد کے ساتھ ایک جگہ رہنا درست ہوگا (فتاویٰ ج ۱ ص ۲۸۲)

بیوی کا دودھ: فتاویٰ کی اس عبارت سے چونکہ وہابی فریب کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اسے ذکر نہ کیا بلکہ اس عبارت کو اس طرح پی گئے جس طرح سردارِ وہابیہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کے فتویٰ کے مطابق اس کے عقیدت مند اپنی بیویوں کا دودھ پی جاتے ہیں (فتاویٰ ثنائی جلد ۲ ص ۱۰۸)

فتاویٰ عالمگیری: کا یہ فتویٰ سیدنا علی شیرِ خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے درج ذیل فیصلہ کی روشنی میں مرتب فرمایا گیا ہے۔ "آپ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر ایک عورت کے ساتھ نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہ پیش کئے آپ نے بمطابق دعویٰ و شہادتِ گواہاں دونوں کے نکاح کا فیصلہ فرما دیا۔ اس پر عورت نے عرض کی اِنْ لَّمْ يَكُنْ بُدٌّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَزَوِّجْنِيْ۔ اے امیر المؤمنین اگر فیصلہ یہی ہے تو پھر آپ میرا اس مرد سے نکاح کر دیجئے (تاکہ ہم رشتۂ زوجیت میں سچ مچ منسلک ہو جائیں) آپ نے فرمایا شَاهِدَاكِ زَوَّجَاكِ دو گواہوں نے تیرا نکاح کرا دیا ہے (حاشیہ بخاری ص ۱۰۶۴) یعنی گواہوں کی موجودگی میں جو فیصلہ ہوا ہے۔ اس میرے فیصلے کے بعد اب جدید نکاح کی ضرورت نہیں۔

شیرِ خدا: اگر کوئی وہابی بسبب خارجی ہونے کے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ

نہیں مانتا تو اس پر ہزار تف۔ ہم تو حنفی سُنّی ہیں۔ ہم اسے بدل وجان قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ حضورِ اقدس صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

۱: اَنَا دَارُ الْحِکْمَةِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا میں حکمت و دانائی کا گھر ہوں علی اس کے دروازہ ہیں (مشکواۃ ص۵۶۴)

۲: اَقْضٰی اُمَّتِیْ عَلِیٌّ میری امت کے سب سے اعلیٰ قاضی علی ہیں (الریاض النضرہ ص۲۶۲ ج۲)

۳: اَللّٰھُمَّ اَدِرِ الْحَقَّ مَعَهٗ حَیْثُ دَارَ۔ الٰہی جدھر علی ہو ادھر حق ہو (ترمذی ص۲۱۳ ج۲)

اعتراض ۲۳: فتاویٰ عالمگیری میں ہے جب خرید و فروخت میں ایجاب و قبول ہو جائے تو بیع لازم ہو جاتی ہے اب کسی کو اختیار نہیں بیع توڑنے کا۔ (جلد۳ ص۸)

حالانکہ حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والے ایک دوسرے پر (بیع ثابت رکھنے یا توڑنے کا) اختیار رکھتے ہیں تا وقتیکہ جدا نہ ہو جائیں۔

الجواب: فتاویٰ عالمگیری کے مندرجہ مسئلہ کو حدیث مذکور کے مخالف بتانا وہابیہ کی جہالت و سفاہت ہے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ اَلْمُتَبَایِعَانِ بِالْخِیَارِ مَالَمْ یَتَفَرَّقَا خرید و فروخت کرنے والوں میں جب تک تفرق نہ پایا جائے تب تک انہیں اختیار رہتا ہے (نسائی ص۲۱۲ جلد۲)

تفرق کی دو قسمیں ہیں ۱: تفرق بالاقوال یعنی بائع و مشتری خرید و فروخت سے متعلق اپنی گفتگو مکمل کر لیں مقدار ثمن و مقدار مبیع پر رضامند ہو کر بیع تام کر لیں (تفرق کی اس قسم کے پائے جانے کے لیے مجلس گفتگو کا بدلنا ضروری نہیں)

۲: تفرق بالابدان یعنی دونوں میں سے کوئی مجلس خرید و فروخت سے اٹھ کر چلا جائے۔ پھر تفرق بالابدان کی دو قسمیں ہیں ایجاب و قبول کے بعد دونوں میں سے کوئی مجلس سے اٹھ کر چلا جائے یا ایجاب کے بعد اور قبول سے پہلے۔ حدیث مذکور میں تفرق کی کسی خاص قسم کے مراد ہونے کی تصریح نہیں فرمائی گئی نہ تفرق بالاقوال کی نہ تفرق بالابدان کی پہلی قسم کی نہ

Marfat.com

دوسری کی۔ اور جب تک حدیث ہی سے یہ ثابت نہ کیا جائے کہ یہاں صرف تفرق بالابدان کی پہلی قسم مراد ہے تب تک حنفیہ پر اس حدیث کی مخالفت کا ناپاک الزام درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حنفی علماء (قدست اسرارہم) نے "مَالَمْ يَتَفَرَّقَا" سے تفرق بالاقوال مراد لیا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک بائع (بیچنے والا) اور مشتری (خریدنے والا) ایجاب و قبول مکمل نہیں کر لیتے اور بیع سے متعلق ان کی گفتگو پوری نہیں ہو جاتی تب تک ان میں سے ہر ایک کو رجوع کا اختیار ہے یعنی اگر بائع نے گفتگو میں پہل کی اور (مثلاً) کہا کہ میں یہ چیز پچاس روپے کی بیچتا ہوں تو جب تک مشتری اس چیز کو پچاس روپے کے عوض قبول نہیں کرتا تب تک بائع اپنی بات سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور یوں ہی اگر مشتری نے گفتگو میں پہل کی اور (مثلاً) کہا کہ میں یہ چیز پچاس روپے کی خریدتا ہوں تو جب تک بائع اس چیز کو پچاس روپے میں بیچنا قبول نہیں کرتا تب تک مشتری کو اپنی بات سے رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن جب دونوں پچاس روپے پر رضامند ہو جائیں اور ایجاب و قبول سے متعلق ان کی گفتگو پوری ہو جائے تو اب رجوع کا کسی کو اختیار نہیں رہتا اور از خود دوسرے کی رضامندی کے بغیر بیع کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ نہ بائع نہ مشتری۔ کیونکہ اب دونوں میں تفرق بالاقوال ہو چکا ہے۔ اور تفرق کے بعد اختیار نہیں رہتا۔

سوال: جب حدیث نے تفرق کی کسی خاص قسم کی تصریح نہیں فرمائی تو حنفیہ نے تفرق بالاقوال کے مراد ہونے کا قول کس دلیل سے کیا؟

جواب: حدیث کا لفظ "اَلْمُتَبَايِعَان" تفرق بالاقوال کے مراد ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ حدیث نے "اَلْمُتَبَايِعَانِ" کو اختیار دیا ہے اور خرید و فروخت کرنے والوں پر "اَلْمُتَبَايِعَانِ" کا اطلاق حقیقتاً اسی وقت درست ہوتا ہے جبکہ وہ دونوں خرید و فروخت سے متعلق گفتگو کرنے میں مصروف ہوں کیونکہ جب ان کی یہ گفتگو مکمل ہو جائے اور ایک بات پر دونوں رضامند ہو جائیں تو اب ان پر "اَلْمُتَبَايِعَان" کے لفظ کا حقیقتاً اطلاق نہیں

Marfat.com

ہو سکتا۔ (مؤطا امام محمد صـ۲۶۱ ہدایۃ اخیرین صـ ۴۶۵)

چونکہ حنفی علماء قرآن دانی وحدیث دانی میں سب پر فائق ہیں اس لیے وہ اپنے استدلال کو مضبوط کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ قرآن وحدیث کے محاورہ میں بھی تفرق کو تفرق بالاقوال کے معنیٰ میں استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنْ یَّتَفَرَّقَا یُغْنِ اللّٰہُ کُلًّا مِّنْ سَعَتِہٖ اگر میاں بیوی متفرق ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی کشائش سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا (سورۃ النساء ع ۱۹) یہاں تفرقِ سے ابدانی تفرق مراد نہیں بلکہ "طلاقی" تفرق مراد ہے جو "بالاقوال" ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اِنَّ بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰی ثِنْتَیْنِ وَسَبْعِیْنَ مِلَّۃً بنی اسرائیل بہتر۷۲ ملتوں میں متفرق ہو گئے (مشکوٰۃ صـ۳۰) اس جگہ ابدانی تفرق مراد نہیں اعتقادی تفرق مراد ہے جو بالاقوال ہوتا ہے۔

تائید مزید: درج ذیل حدیثیں بھی حنفی مذہب کی مؤید ہیں۔ ۱ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَا یَحِلُّ لَہٗ اَنْ یُّفَارِقَ خَشْیَۃَ اَنْ یَّسْتَقِیْلَہٗ۔ اس خوف سے مجلس بدلنا کہ ساتھی ابطال بیع کا مطالبہ نہ کرے درست نہیں (مشکوٰۃ صـ۲۴۴) مطالبہ اس چیز کا کیا جاتا ہے جو حاصل نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ بیع مکمل ہو جانے کے بعد خیار مجلس کسی کے لیے نہیں رہتا ورنہ ساتھی سے مطالبہ کرنے کے کیا معنے؟ ۲۔ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خَیَّرَ اَعْرَابِیًّا بَعْدَ الْبَیْعِ ایک اعرابی کو بیع ہونے کے بعد اختیار دیا (مشکوٰۃ صـ۲۴۴) پتہ چلا کہ بیع مکمل ہونے کے بعد کسی کے لیے خیار مجلس نہیں رہتا کیونکہ اگر اعرابی کے لیے خیار مجلس ثابت بالعقد ہوتا تو حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اختیار نہ دیتے جو چیز کسی کے پاس پہلے موجود ہوتی ہے وہ اسے نہیں دی جا سکتی (فان تحصیل الحاصل محال)

وہابی مذہب کی ناکامی: دیگر مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی وہابی مذہب بُری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ حرمین طیبین (زادہما اللہ شرفاً) میں خصوصاً اور دیگر ممالک عربیہ وعجمیہ میں عموماً حنفی مذہب ہی کی تحقیق کے مطابق حدیث مذکور

Marfat.com

پر عمل ہو رہا ہے۔ اگر مشتری ایجاب وقبول کے مکمل ہونے سے پہلے خریداری چھوڑ دے تو اسے تاجر برادری میں بُرا نہیں سمجھا جاتا لیکن بیع مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی مشتری خریدی ہوئی چیز واپس کرے تو اسے واپس نہیں لیتے۔ بلکہ بعض دفعہ مشاتمت و مقاتلت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ کیا وہابی تاجر اپنے گاہکوں کو اس کی اجازت دیں گے ؟ کہ وہ ان کی دکانوں سے صبح سے شام تک مختلف اشیاء خریدتے رہیں اور شام کو سب چیزیں یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ چونکہ ہم نے مجلس نہیں بدلی لہٰذا یہ خریداریاں ہمیں نامنظور ہیں۔ اگر تمام مسلمانوں پر وہابی مذہب کی حقیقت منکشف ہو جائے ان کی جہالتوں ضلالتوں حماقتوں اور سفاہتوں کو سب جان جائیں تو کوئی شریف اور کوئی عقلمند اس نامہذب مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو لیکن مسلمان بھائیوں کی سادگی سے وہابیہ (خذلہم اللہ تعالیٰ) فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کئی ایک کو اپنے پُر فریب جال میں پھنسا رہے ہیں ؎

خُدا محفوظ رکھے ہر بلا سے
خصُوصاً دشمنانِ اولیا سے

وہابیوں کی اصلاح کا انوکھا طریقہ: سُنا ہے کہ ایک وہابی مولوی کے دماغ میں کسی خناس نے یہ بات ڈالی کہ تو سردارِ وہابیہ ہے اور سب سے بڑا عالم ہے۔ تجھے ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تُو خود مجتہد مطلق ہے۔ اپنے اس منصب اجتہاد سے فائدہ اٹھا اور وہابیہ کو اجتہادی افادات سے نواز۔ بمطابق اس مشورہ و وسوسہ کے سردارِ وہابیہ نے اجتہاد کیا کہ اگر کوئی شخص محتلم ہو جائے اور جس کے ساتھ خود کو مشغول دیکھا اسے پہچانتا بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ فریق ثانی کو بھی آگاہ کر دے تاکہ وہ بھی غسل کرے۔ اگلے دن علی الصبح کئی نوجوان مجتہد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت! گھر میں غسل کی تاکید کر دیں کیونکہ آج خواب میں ان کے ساتھ مشغولیت نظر آئی تھی۔ یہ سنتے ہی مجتہد صاحب نے

Marfat.com

خناس پر ہزار لعنت بھیجی اور اپنے الوکھے اجتہاد سے رجوع کیا اور منصب اجتہاد پر فائز ہونے کا زعمِ باطل نو دو گیارہ ہو گیا۔

یونہی اگر کوئی وہابی مرغیوں کا بڑا تاجر ہو۔ اُسے کوئی جا کر کہے کہ مَیں سابق وفاقی وزیر چوہدری ظہور الٰہی کا رشتہ دار ہوں۔ مجھے اپنی لڑکی کی شادی کے لیے بیس ہزار مرغیوں کی ضرورت ہے۔ پیسے طے ہو جائیں ایجاب وقبول مکمل ہو جائے اور حسبِ عادت تجار مرغیاں ذبح ہو جائیں ان کی کھالیں اتروا کر جماعت اسلامی کے دفتر میں بھجوائی جانے لگیں اور تمام کام مکمل ہونے کے بعد مرغیوں کا خریدار یہ کہہ کر سب مرغیاں واپس کر دے کہ چونکہ تاہنوز ہماری مجلس گفتگو نہیں بدلی لہٰذا میں اس بیع کو توڑتا ہوں۔ تو اس ایک واقعہ کے ذریعہ سردارِ وہابیہ کی طرح اس وہابی تاجر کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور ایک ہی سانس میں وہابی مذہب کو طلقاتِ ثلاثہ مغلظہ دے دے گا۔ اور حنفی مذہب کو بدل وجان قبول کرے گا۔ کیونکہ حنفی مذہب میں ایجاب وقبول کے بعد کسی کو بیع توڑنے کا اختیار نہیں رہتا۔

اعتراض ۲۴: اگر کوئی شخص اپنی زمین اس غرض سے کسی کو دے کہ وہ اس میں کاشت کرے اور مالک اس سے اپنا حصہ مقرر کرے تو جائز نہیں۔ عند ابی حنیفہ (فتاویٰ عالمگیر جلد ۵ ص ۲۳۵ وہدایہ) حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے کھجوروں کے درخت اور زمین یہود کو دے دی اس شرط پر کہ وہ اپنے اموال صرف کر کے کام کریں اور پھلوں کا نصف آپ کو دیں۔ (مسلم)

الجواب: وہابیہ نے خیبر کی کھجوروں کا جو مسئلہ حدیث شریف سے نقل کیا ہے یہ مسئلہ خراج مقاسمہ کا ہے۔ مزارعت کا نہیں اور جو مسئلہ فتاویٰ عالمگیر سے نقل کیا ہے یہ مسئلہ مزارعت کا ہے خراج مقاسمہ کا نہیں۔ خراج مقاسمہ میں اور مزارعت میں فرق ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو فتاویٰ عالمگیری کے مختلف ابواب میں

Marfat.com

بالتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ وہابیہ کی حماقت وجہالت ہے کہ دو مختلف چیزوں کو ایک سمجھ رہے ہیں اور اپنی کج فہمی پر رونے کی بجائے فتاویٰ عالمگیر پر اعتراض کر رہے ہیں ؂

سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاست

فتاویٰ کی عبارتیں ملاحظہ ہوں۔

خراجِ مقاسمہ: هُوَ اَنْ يَكُوْنَ الْوَاجِبُ شَيْئًا مِنَ الْخَارِجِ نَحْوُ الْخُمُسِ وَالسُّدُسِ وَمَا اَشْبَهَ ذَالِكَ فَالتَّقْدِيْرُ فِيْهِ مُفَوَّضٌ اِلَى الْاِمَامِ لٰكِنْ لَا يُزَادُ عَلٰى نِصْفِ الْخَارِجِ یعنی خراجِ مقاسمہ یہ ہے کہ کافر پر اس کی زمین کی پیداوار میں سے پانچواں یا چھٹا یا اس کی مانند کوئی حصہ امام المسلمین اپنی مرضی سے مقرر کرے لیکن وہ نصف پیداوار سے زیادہ نہ ہو (جلد ۲ صفحہ ۲۳۷-۲۳۹) دیکھئے یہ مسئلہ حدیث خیبر کے بالکل موافق ہے لیکن بے چارے وہابی فقہ وحدیث کی صحیح سمجھ کہاں سے لائیں؟

مزارعت: فَهِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحْمَتُهُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَعِنْدَهُمَا جَائِزَةٌ وَالْفَتْوٰى عَلٰى قَوْلِهِمَا لِحَاجَةِ النَّاسِ۔ اپنی زمین کسی کو بٹائی پر دینا (مزارعت) امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک فاسد ہے اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے اور لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے (جلد ۵ صفحہ ۲۳۵) دیکھئے فتاویٰ عالمگیری نے مزارعت کو جائز کہا ہے اور اسے مفتی بہ قرار دیا ہے لیکن وہابیہ (غضبہم اللہ) نے بد دیانتی سے کام لے کر "عند ابی حنیفہ" کے بعد والی ساری عبارت حذف کر دی اور فتاویٰ عالمگیری سے عناد رکھنے کے جنون میں غلط بیانی کی ؂

شرم نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

مزارعت کا اصل مسئلہ معلوم کرنے کے لیے درج ذیل حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ "ہم مزارعت کیا کرتے تھے اور اس میں کچھ حرج نہ سمجھتے تھے یہاں تک کہ رافع بن خدیج نے بتایا کہ "ان النبی

Marfat.com

صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نَهٰى عَنْهَا " نبی صلی اللہ علیہ وسلّم نے اس سے منع فرمایا ہے
تو ہم نے مزارعت چھوڑ دی (مشکوٰۃ ص۲۵۷)

۲: رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ ہمارے کھیت تھے ہم میں بعض اپنی زمین اس طرح کرایہ پر دیتے کہ زمین کے اس ٹکڑے کی پیداوار میری ہوگی اور اس دوسرے ٹکڑے کی پیداوار تمہاری ہوگی۔ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هٰذِهٖ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهٖ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلّم تو کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ٹکڑے میں پیداوار ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی۔ بنابریں نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مزارعت سے منع فرمایا۔ (مشکوٰۃ ص۲۵۷)

۳: سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضورِ اقدس صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا۔ مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۔ جو شخص مزارعت نہیں چھوڑتا اسے آگاہ کیا جائے کہ اس کی اللہ و رسول (جل جلالہ و صلّی اللہ علیہ وسلم) سے جنگ ہے (ابوداؤد ص۴۸۳)

۴: رافع بن خدیج نے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کریم میں ہم لوگ مزارعت کیا کرتے تھے کہ میرے چچوں میں سے بعض نے آکر بتایا کہ رسول اکرم صلّی اللہ علیہ وسلم نے اس نفع بخش مزارعت سے منع فرمادیا ہے اور ہمارے لیے زیادہ نفع آپ ہی کی اطاعت میں ہے۔ آپ کے ارشاد کے الفاظ یہ ہیں مَنْ كَانَتْ لَهٗ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيْهَا بِثُلُثٍ وَلَا رُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى ۔ جس کی ملک میں زرعی زمین ہو اسے چاہیئے کہ خود کاشت کرے یا مسلمان بھائی کو کاشت کے لیے مفت دے۔ کرایہ پر نہ دے نہ تہائی کے عوض نہ چوتھائی کے عوض نہ معین طعام کے عوض (ابوداؤد ص۴۸۲)

۵: عمرو بن دینار نے طاؤس سے کہا کہ آپ مزارعت ترک کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلّی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ابنِ عباس نے خبر دی کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم نے مزارعت سے علی الاطلاق نہیں روکا بلکہ

Marfat.com

آپ نے فرمایا ہے۔ اِن یَّمْنَحَ اَحَدُکُمْ اَخَاہُ خَیْرٌ لَّہٗ مِنْ اَنْ یَّاْخُذَ علیہ خرجاً معلوماً
اپنے مسلمان بھائی کو کاشت کے لیے زمین مفت دینا معاوضہ پر دینے سے بہتر ہے۔
(مشکوٰۃ صنے ۲۵۷) بٹائی پر زمین دینا بلحاظِ شروط لازمہ جائز تو ہے لیکن زیادہ بہتری اس میں
ہے کہ مفت دی جائے۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بٹائی پر زمین دینے کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض صورتیں
جائز ہیں اور بعض ناجائز۔ حدیث میں جس صورت کا ذکر فرمایا گیا وہ اور اس سے ملتی جلتی
ہر صورت ناجائز ہے کیونکہ اس میں بعض دفعہ ایک فریق بالکل محروم ہو جاتا ہے اور حدیث
۳ میں جو وعید ذکر فرمائی گئی ہے وہ اسی صورت سے متعلق ہے۔ جن علماء نے مزارعت کو
فاسد کہا انہوں نے احادیث عدم جواز کے پیش نظر فاسد کہا اور جنہوں نے اجازت دی
انہوں نے احادیث جواز کے پیش نظر اجازت دی۔ نہ مانعین نے حدیث کی مخالفت کی ہے
نہ مجوزین نے۔ تو ان میں سے کسی کے قول کو مخالفت حدیث بتانا جہالت و حماقت ہے
چونکہ حنفی علماء (قدست اسرارہم) کی نظر سب حدیثوں پر ہے اور لوگوں کی ضروریات و
حاجات پر بھی۔ اس لیے انہوں نے بعض شرائط کا لحاظ رکھ کر مزارعت کی اجازت دی
ہے اور اس جواز کو مفتیٰ بہ قرار دیا ہے لیکن وہابیہ کو جوشِ عناد نے ایسا اندھا کر دیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے علماء احناف کو جس قدر علم و فضل سے نوازا ہے وہ وہابیہ کو نظر نہیں آتا ۔

گر نہ بیند بروز شپرہ چشم
چشمۂ آفتاب را چہ گناہ

اعتراض نمبر ۲۵: "ایک کافر دیا اس کی عورت مسلمان ہو کر دار الحرب سے دار الاسلام میں
آجائے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں رہتا ٹوٹ جاتا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری
جلد ۱ صنے ۳۳۸ سطر ۱۲) حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو ہجرت کے چھ
سال بعد ابو العاص بن ربیع کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آپ نے پہلا ہی نکاح بحال رکھا اور نیا نکاح

نہیں کیا۔"

الجواب: وہابیہ (خذلھم اللہ تعالیٰ) کا یہ اعتراض بھی ان کے جاہل بالقرآن اور جاہل بالحدیث ہونے کی دلیل ہے کیونکہ فتاویٰ عالمگیری کا یہ مسئلہ صراحۃً قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اِنْ عَلِمْتُمُوْھُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْھُنَّ اِلَی الْکُفَّارِ لَا ھُنَّ حِلٌّ لَّھُمْ وَلَا ھُمْ یَحِلُّوْنَ لَھُنَّ وَاٰتُوْھُمْ مَّا اَنْفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اَنْ تَنْکِحُوْھُنَّ۔ (کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آنے والی عورتیں) اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو (جو ان کے شوہر تھے) واپس نہ دو۔ یہ مسلمان عورتیں انہیں حلال ہیں نہ وہ کافر مرد انہیں حلال ہیں۔ اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان مہاجر عورتوں سے نکاح کر لو (الممتحنہ ع ۲ پ ۲۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اِذَا اَسْلَمَتِ النَّصْرَانِیَّۃُ قَبْلَ زَوْجِھَا بِسَاعَۃٍ حَرُمَتْ عَلَیْہِ یعنی اگر نصرانی عورت اپنے خاوند سے پہلے مسلمان ہو جائے اور اس کا خاوند اسلام لانے سے انکار کرے یہ انکار اگرچہ ایک آن کے لیے ہو تو اس پر وہ عورت حرام ہو جاتی ہے (بخاری جلد ۲ صـ ۷۹۶)

ام المؤمنین الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ "ابوالعاص کفر کی حالت میں مسلمان ہونے سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت زینب سے ملنے کے لیے آیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اَیْ بُنَیَّۃُ اَکْرِمِیْ مَثْوَاہُ وَلَا یَخْلُصْ اِلَیْکِ فَاِنَّکِ لَا تَحِلِّیْنَ لَہٗ۔ پیاری بیٹی! ابوالعاص کو اکرام کے ساتھ ٹھہرا پر وہ تجھ تک نہ پہنچے (پس پردہ رہے) کیونکہ تو اس پر حلال نہیں (بیہقی جلد ۷ صـ ۱۸۵)

آیۃ مذکورہ سے اور مندرجہ بالا حدیثوں سے وہی مسئلہ معلوم ہوا جسے فتاویٰ عالمگیر میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا خاوند کفر پر قائم رہے اور مسلمان ہونے سے انکار کرے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا

Marfat.com

کے خاوند ابوالعاص نے جب مسلمان ہونے سے انکار کیا اور سیدہ ہجرت کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ بابرکت میں حاضر ہو گئیں تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ سیدنا ابنِ عباس کی روایت سے معلوم ہوا کہ ایک آن کے لیے انکار کرنا بھی نکاح کو توڑ دیتا ہے اور ابوالعاص نے تو ۱۸ سال تک انکار کیا پھر اسلام قبول کیا (الجوہر النقی علی البیہقی ج ۷ ص ۱۸۸) تو ان کا پہلے والا نکاح کس طرح برقرار رہ سکتا ہے۔ بنا بریں حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت فرماتے ہیں کہ ابوالعاص نے جب اسلام قبول کیا تو اِنَّ النَّبِیَّ صلی اللہ علیہ وسلم رَدَّ اِبْنَتَہٗ عَلٰی اَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ بِمَھْرٍ جَدِیدٍ وَنِکَاحٍ جَدِیدٍ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو نئے مہر اور نئے نکاح کے ساتھ ابوالعاص کی طرف لوٹایا (ترمذی جلد ۱ ص ۱۳۶ ابن ماجہ ص ۱۴۶ بیہقی ج ۷ ص ۱۸۸)

اگر عورتوں کے مسلمان ہو کر ہجرت کرنے اور کافر خاوندوں کو کفرستان میں چھوڑ دینے سے فوراً نکاح نہ ٹوٹتا تو اللہ تعالیٰ مندرجہ بالا آیت میں لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اَنْ تَنْکِحُوْھُنَّ ارشاد فرما کر مسلمانوں کو ان عورتوں سے نکاح کی اجازت ہرگز نہ دیتا ؎

اگر در خانہ کس است یک حرف بس است

سوال: وہابیہ کی ذکر کردہ حدیث کا حنفیہ کے ہاں کیا جواب ہے؟

الجواب: پہلے اس حدیث کے اصل الفاظ سنیئے پھر مطلب معلوم کیجئے۔ عن ابن عباس قال رَدَّ النَّبِیُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِبْنَتَہٗ زَیْنَبَ عَلٰی اَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِیْنَ بِالنِّکَاحِ الْاَوَّلِ وَلَمْ یُحْدِثْ نِکَاحًا وفی روایۃ لم یُحْدِثْ شَیْئًا (ترمذی ص ۱۳۶ ابن ماجہ ص ۱۴۶ بیہقی ج ۷ ص ۱۸۷)

حنفی علماء چونکہ حدیث دانی و فقہ دانی میں سب محدثین اور جملہ فقہاء پر فائق ہیں اس لیے ان نفوسِ قدسیہ نے اس حدیث کا ایسا مطلب بیان فرمایا کہ سب حدیثیں باہم منطبق ہو گئیں اور ان میں کسی قسم کا اختلاف نہ رہا اور آیت کریمہ سے بھی سب کی موافقت ہو گئی۔ ان کا ارشاد ہے کہ "بِالنِّکَاحِ الْاَوَّلِ" میں حرف "ب" بمعنے سبب ہے۔ اور مطلب

Marfat.com

حدیث شریف کا یہ ہے کہ چونکہ سیدہ زینب پہلے ابوالعاص کے نکاح میں رہ چکی تھیں اس لیے جب ان کے اسلام کے اٹھارہ برس بعد اور ہجرت کے چھ برس بعد ابوالعاص نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسبب پہلے نکاح کے ابوالعاص کو دوسروں پر ترجیح دی اور سیدہ زینب کا دوبارہ نکاح ابوالعاص ہی سے کر دیا (ولم یحدث نکاحًا او شیئًا) اور جتنا مہر پہلے نکاح کا تھا اتنا ہی اب مقرر فرمایا۔ نکاح جدید میں کسی عطیہ وغیرہ کے لینے دینے کا اضافہ نہ فرمایا۔

اس تقریر سے جہاں سب حدیثیں باہم منطبق ہوگئیں وہاں کوئی حدیث متروک بھی نہیں ہوئی اور کسی حدیث کی آیتہ مذکورہ سے مخالفت بھی لازم نہ آئی۔

اگر حدیث کا وہ مطلب لیا جائے جسے وہابیہ نے فتاویٰ عالمگیری پر اعتراض کرنے کے لیے اختیار کیا تو اس حدیث کی آیتہ مذکورہ سے نیز حدیث عمرو بن شعیب سے نیز حدیث ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ سے (بیہقی جلد ۷ ص ۱۸۵) مخالفت لازم آئے گی۔ بلکہ ابن عباس کی یہ حدیث ان کی دوسری حدیث (مذکور فی البخاری جلد ۲ ص ۷۹۶) کے بھی مخالف ہو جائے گی۔ برا ہو طائفہ مخذولہ وہابیہ کے تعصب کا کہ انہوں نے فتاویٰ عالمگیری کی دشمنی میں قرآن مجید سے بھی منہ پھیر لیا اور احادیث شریفہ سے بھی۔ اور تعصب نے اتنا جوش مارا کہ بخاری شریف سے بھی منحرف ہو گئے ؎

اف ارے منکر یہ بڑھا جوشِ تعصب آخر
بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا

اعتراض ۲۶: ”اگر کسی لونڈی سے نکاح کرے اور اس کی آزادی کو مہر ٹھہرا دے تو وہ نکاح درست نہیں (عالمگیر جلد ۱ ص ۱۱۱ مطبوعہ دہلی) حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا نکاح کیا ہے۔“

الجواب: جھوٹے وہابیوں نے حدیث شریف کا حوالہ بالکل نہیں دیا۔ اور جو عبارت

Marfat.com

فتاویٰ عالمگیری کی طرف منسوب کی وہ فتاویٰ میں موجود نہیں اور جو فتاویٰ میں موجود ہے وہ اس من گھڑت عبارت کے موافق نہیں ملاحظہ ہو۔ لَوْقَالَ لِاَمَتِہٖ اَعْتَقْتُكِ عَلٰی اَنْ تَتَزَوَّجِیْنِیْ وَیَکُوْنَ الْعِتْقُ صَدَاقَكِ فَقَبِلَتْ عَتَقَتْ ثُمَّ اِنْ وَفَتْ بِالشَّرْطِ وَزَوَّجَتْ نَفْسَھَا مِنْہُ فَلَاشَیْئَ عَلَیْھَا وَاِلَّا یَجِبُ عَلَیْھَا قِیْمَۃُ نَفْسِھَا۔ یعنی اگر آقا نے اپنی لونڈی سے کہا کہ میں تجھے بلا معاوضہ اس شرط پر آزاد کرتا ہوں کہ تو آزاد ہونے اور نکاح میں خود مختار ہونے کے بعد مجھ ہی سے نکاح کرے گی اور تیرا مہر نکاح اس آزادی کو سمجھا جائے گا۔ لونڈی نے یہ شرط منظور کرلی تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ پھر اگر اس نے آزاد ہونے کے بعد وعدہ پورا کیا اور اس مرد سے نکاح کرلیا تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا اور اگر عورت نے وعدہ خلافی کی اور آزاد کرنے والے آقا سے نکاح نہ کیا تو لونڈی ہونے کی حالت میں جو اس کی قیمت تھی وہ قیمت مرد کو ادا کرنی عورت پر لازم ہوگی (جلد ا ص۳۰۹)

اس عبارت میں اور وہابیہ مخذولہ کی ذکر کردہ عبارت میں بہت بڑا فرق ہے جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ نیز یہ عبارت حضور اقدس صلّی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے مخالف ہرگز نہیں۔ اگر کوئی نام نہاد اہل حدیث اس عبارت کو کسی حدیث کے مخالف سمجھتا ہے تو وہ اس حدیث کو (مع نام کتاب باب نمبر صفحہ) ذکر کرکے فقہ حنفی کے اس ادنیٰ خادم سے جواب لے سکتا ہے لیکن ؎

نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے
یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

ساری عمر خدمت اسلام میں صرف کرنے والے نفوسِ قدسیہ کے بدترین مخالف وہابی ہفت روزہ نام نہاد "الاسلام" لاہور نے بھی شیخ نجدی علیہ ما علیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فتاویٰ عالمگیری پر دو اعتراض کرنے کی شقاوت حاصل کی ہے۔ ایک اعتراض سیالکوٹ کے کسی محمد [illegible] یم حکیم کی طرف سے ذکر کیا گیا ہے اور دوسرا کسی غیر معروف

Marfat.com

نیم ملا عبداللہ عفیف کی طرف سے۔ پہلا ۱۸ مئی ۱۹۷۹ء کی اشاعت میں اور دوسرا یکم جون کی اشاعت میں چھپا۔ ذیل میں پہلے، پہلے کا پھر دوسرے کا جواب بتوفیقہ تعالیٰ وعونہ عرض ہوگا اور نیم حکیم و نیم ملاں دونوں کی جہالتوں و حماقتوں سے خود بخود پردہ اُٹھتا جائے گا۔ (انشاء اللہ)

خُدا ایسی قوّت دے میرے قلم میں
کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں

اعتراض ۱: فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ میں ہے "زوجہ مفقود الخبر نوے برس انتظار کرے"۔

جواب: "نوے برس انتظار کرے" کے الفاظ فتاویٰ کے نہیں حکیم صاحب کے منگھڑت ہیں۔ فتاویٰ کی اصل عبارت یہ ہے۔ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَہٗ وَبَیْنَ اِمْرَأَتِہٖ وَحُکْمُ بِمَوْتِہٖ بِمُضِیِّ تِسْعِیْنَ سَنَۃً وَعَلَیْہِ الْفَتْوٰی ..... وَاِذَا حَکَمَ بِمَوْتِہٖ اِعْتَدَّتْ اِمْرَأَتُہٗ عِدَّۃَ الْوَفَاۃِ مِنْ ذَالِکَ الْوَقْتِ .... فَاِنْ عَادَ زَوْجُھَا بَعْدَ مُضِیِّ الْمُدَّۃِ فَھُوَ اَحَقُّ بِھَا۔ یعنی مفقود اور اس کی بیوی کے درمیان قاضی تفریق نہ کرے۔ ہاں جب مفقود کی عمر نوّے برس ہو جائے تو اب اس کی موت کا فیصلہ کرے اسی پر فتویٰ ہے اور فیصلۂ موت کے بعد اس کی بیوی عدت وفات (چار ماہ دس دن) گزارے اور اگر نوے برس گزرنے کے بعد عورت کا خاوند اس کے نکاح ثانی سے پہلے گھر واپس آجائے تو وہ اسی کی بیوی سمجھی جائے گی (ص ۳۰۰ جلد ۲) معلوم ہوا خاوند کا ۹۰ برس کی عمر کو پہنچنا نکاح ٹوٹنے کا اصل سبب نہیں بلکہ نکاح ٹوٹنے کا اصل سبب صرف یہ ہے کہ خاوند طلاق دے یا مرجائے۔ ۹۰ برس پر فتویٰ صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ عموماً اس عمر کا آدمی مرجاتا ہے۔ بنا بریں اگر ۹۰ برس کے بعد خاوند گھر آجائے تو یہ عورت بدستور اسی کی بیوی رہتی ہے۔ اور دوسری جگہ نکاح کرنے کی مجاز نہیں ہوتی۔ فتاویٰ عالمگیری کا یہ فتویٰ قرآن مجید کی کسی آیت یا رسولِ اکرم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے ہرگز مخالف نہیں اس لیے حکیم مذکور نے

Marfat.com

بے تحاشا ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود اس فتویٰ کے خلاف نہ کوئی آیت پیش کی ہے نہ حدیث اور نہ ہی کسی دوسرے وہابی میں اس کے خلاف آیت و حدیث پیش کرنے کی ہمت ہے۔ اُدْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ؎

اس سادگی پہ کون نہ مرجائے اے خُدا
لڑتے ہیں لیکن ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

البتہ ہم فتاویٰ عالمگیری کے فتویٰ کی تائید میں آیاتِ مبارکہ بھی پیش کر سکتے ہیں اور احادیثِ شریفہ بھی ملاحظہ ہوں۔

آیت ۱: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اور تم پر حرام ہیں شوہر دار عورتیں (النساء ع ۴) جن کے خاوند مفقود ہو جائیں وہ عورتیں پہلے کی طرح اب بھی شوہر دار ہیں جب تک انہیں طلاق نہیں ملتی یا خاوند نہیں مرتے تب تک وہ انہیں کے حبالۂ عقد میں ہیں تو اس آیت کی رو سے ان سے نکاح درست نہیں۔

آیت ۲: بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ نکاح کی گرہ صرف خاوند کے ہاتھ ہے (البقرہ ع ۳۱) مفقود الخبر بھی خاوند ہی ہے تو نکاح کی گرہ کو وہی کھول سکتا ہے۔ یعنی اس کے سوا کوئی دوسرا طلاق نہیں دے سکتا تو جب تک اس کے مرنے یا طلاق دینے کی یقینی خبر نہ پہنچے تب تک اس کی بیوی سے نکاح درست نہیں۔ کیونکہ ابھی تک نکاح سابق کی گرہ نہیں کھلی۔

حدیث ۱: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسَّاقِ اے لوگو طلاق کا مالک صرف خاوند ہے (طبرانی فیض القدیر جلد ۲ ص ۲۹۳) مفقود الخبر جب خاوند ہے تو اس کی بیوی کو اس کے سوا کوئی طلاق نہیں دے سکتا تو خاوند کی موت یا طلاق کے بغیر اس سے نکاح درست نہیں۔

حدیث ۲: مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اِمْرَاَةُ الْمَفْقُوْدِ اِمْرَاَتُهٗ حَتّٰى يَاْتِيَهَا الْبَيَانُ مفقود کی عورت

Marfat.com

جب تک بیان نہ آجائے (یعنی اس کی موت یا طلاق معلوم نہ ہو) اسی کی عورت ہے (بیہقی جلد ۷ ص ۴۴۵)

حدیث نمبر ۳: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفقود کی عورت کے متعلق فرمایا کہ اِمْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ لَا تَنْكِحُ حَتّٰى يَأْتِيَهَا يَقِيْنُ مَوْتِهٖ وہ ایک عورت ہے جو مصیبت میں مبتلا کی گئی اس کو صبر کرنا چاہیئے۔ دوسری جگہ نکاح نہیں کرنا چاہیئے جب تک موت کی یقینی خبر نہ آئے (بیہقی جلد ۷ ص ۴۴۶)

حدیث ۴: عن ابن مسعود وافق علیا علی انھا تنتظرہ ابداً حضرت ابن مسعود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی موافقت کی اور فرمایا کہ مفقود کی بیوی اس کی موت تک انتظار کرے (الدرایۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ ص ۲۷۶)

سوال: مغیرہ بن شعبہ کی حدیث کا راوی سوار بن مصعب اور محمد بن شرجیل دونوں ضعیف ہیں (بیہقی ص ۴۴۵ درایۃ ص ۲۷۶ فتح القدیر جدید ص ۴۷۲ جلد ۵)

جواب: جب تحقیق بالا سے معلوم ہو گیا کہ مغیرہ بن شعبہ کی حدیث کا مضمون آیاتِ قرآنیہ کے اور حدیث ۱-۳-۴ کے موافق ہے تو سند کے بعض رواۃ کے ضعیف ہونے سے مضمونِ حدیث ضعیف نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ترمذی جلد ۱ ص ۱۳۳ اور مشکواۃ ص ۲۷۵ میں اس حدیث کی سند کو لَا یَصِحُّ کہا گیا ہے جس کا مضمون سورۃ النساء ع ۴ آیت ۱۰ کے بالکل مطابق ہے اور صحیح ہے۔

سوال: سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت نے اپنے خاوند کی گمشدگی کی شکایت کی تو آپ نے اسے صرف چار برس انتظار کرنے کا حکم دیا (بیہقی جلد ۷ ص ۴۴۶)

جواب: اس اعتراض کی صحت اس پر موقوف ہے کہ معترضین معتبر سند کے ساتھ ثابت کریں کہ اس عورت کا خاوند گمشدگی کے وقت ۸۶ برس سے کم عمر

Marfat.com

کا تھا۔ کیونکہ ۸۶ سال کی عمر کا آدمی گم جائے تو فتاویٰ عالمگیری کے مطابق بھی اس کی بیوی چار سال کے بعد عدت وفات گزار کر نکاح ثانی کر سکتی ہے۔

سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مندرجہ بالا فیصلہ کے ساتھ بطور قاعدہ کلیہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اَیُّمَا امْرَأَۃٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ اَیْنَ هُوَ فَاِنَّهَا تَنْتَظِرُ اَرْبَعَ سِنِیْنَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا جس عورت کا خاوند گم جائے اور وہ نہ جانتی ہو کہ کہاں گیا؟ تو وہ عورت چار برس انتظار کرے پھر (خاوند کو مردہ سمجھ کر) چار ماہ دس دن عدتِ وفات گزارے (بیہقی جلد ۷، صہ ۴۴۵)

جواب: بے شک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا پھر اس کے مطابق عمل ہوا اور عورت نے نکاح ثانی کر لیا لیکن مصیبت یہ پیش آئی کہ اس کا پہلا خاوند زندہ واپس آگیا اور اس نے بیوی کی واپسی کا مطالبہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے گمشدگی کی وجہ پوچھی تو بولا کہ مجھے کافر جن گرفتار کر کے لے گئے تھے انہوں نے کئی سال اپنی قید میں رکھا پھر ان سے مسلمان جنوں نے جنگ کر کے مجھے چھڑایا اور یہاں پہنچایا۔ فَخَیَّرَهُ عُمَرُ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی بَیْنَ الصَّدَاقِ وَبَیْنَ امْرَاَتِهٖ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معذور جان کر فرمایا کہ مہر کی رقم (جو تو نے بیوی کو دی تھی) اور بیوی ان دونوں میں سے ایک جو بھی تو پسند کرے لے جا! اس نے مہر کی رقم پسند کی تو آپ نے بیت المال سے ادا فرمائی (بیہقی جلد ۷، صہ ۴۴۶) معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے مذکورہ فیصلہ پر بعد میں غیر مطمئن ہو گئے تھے ورنہ مفقود کو اس کی بیوی واپس کرنے پر رضامند نہ ہوتے۔ بنا بریں صاحب ہدایۃ علیہ الرحمت نے تحریر فرمایا کہ عُمَرُ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ رَجَعَ اِلٰی قَوْلِ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ حضرت عمر نے اپنے پہلے فیصلہ سے رجوع کر کے حضرت علی سے موافقت کر لی تھی۔ صہ ۶۲۳ بلکہ

سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے واشگاف الفاظ میں اس فیصلہ کی مخالفت

Marfat.com

کی۔ آپ فرماتے ہیں۔ لَیْسَ الَّذِیْ قَالَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ بِشَیْئٍ یعنی فِیْ اِمْرَأَۃِ الْمَفْقُوْدِ ھِیَ اِمْرَأَۃُ الْغَائِبِ حَتّٰی یَأْتِیْھَا یَقِیْنُ مَوْتِہٖ اَوْطَلَاقُھَا وَنِکَاحُھَا بَاطِلٌ۔ مفقود الخبر کی بیوی کے متعلق حضرت عمر کا فیصلہ درست نہیں۔ جب تک موت یا طلاق کی یقینی خبر نہ آئے تب تک وہ عورت بدستور مفقود کی بیوی ہے اس کا نکاح ثانی باطل ہے (بیہقی جلد ۷ ص ۴۴۴) معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام میں اختلافی تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل قوی تھے اس لیے حنفی علماء نے آپ کے قول شریف کے مطابق فتویٰ دیا۔ چونکہ حنفی علماء سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے فقیہ ہیں اس لیے ان کی شان کے لائق یہی ہے کہ اختلافی مسائل میں صرف وہی مسئلہ اختیار فرمادیں جسے قرآن و حدیث کی نصوص نے قوت بخشی ہو۔

سوال: حکیم صادق نے فتاویٰ عالمگیری پر طنز کرتے ہوئے ایک مثال دی ہے کہ ایک لڑکی کی ۱۸ سال کی عمر میں شادی ہوئی دو سال کے بعد اس کا خاوند گم ہوگیا تو اس کے بارے میں فتاویٰ عالمگیری کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ ۹۰ سال تک خاوند کا انتظار کرے پھر چار ماہ دس دن عدت گزارے پھر کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے اس وقت وہ ایک سو دس سال چار ماہ دس دن کی ہو جائے گی۔ (ملخصاً)

الجواب: حکیم کا معنیٰ "دانا" اور صادق کا معنیٰ "سچا" ہے مگر موصوف دانائی اور سچائی دونوں سے محروم ہیں۔ اور بفحوائے ؏ خرد کا نام جنون اور جنوں کا خرد۔ حکیم و صادق کہلاتے ہیں۔ کتب فتاویٰ میں آسان تر کتاب فتاویٰ عالمگیری ہے مگر حکیم بے چارے کی جہالت ملاحظہ ہو کہ اسے اس آسان کتاب کا یہ ایک مسئلہ بھی نہیں آتا۔ فتاویٰ عالمگیری میں ذکر کردہ ۹۰ برس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گمشدگی کے وقت سے ۹۰ برس شمار ہوں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ گمشدہ آدمی کی پیدائش کے وقت سے ۹۰ برس گنے جائیں گے۔ یعنی اگر گمشدگی کے وقت خاوند کی عمر ۸۶ برس تھی تو

Marfat.com

اس کی بیوی ۴ برس انتظار کرے گی اور اگر ۸۸ برس تھی تو ۲ برس اور اگر ۸۹ برس تھی تو صرف ایک برس انتظار کرے گی۔ پھر عدت وفات ۴ ماہ ۱۰ دن گزار کر نکاح ثانی کرنے کی مجاز ہوگی۔

نادان حکیم نے نکاح ثانی کے وقت جو عورت کی عمر ایک سو دس سال چار ماہ دس دن بتائی ہے یہ عمر فتاویٰ عالمگیری کے مطابق متصور نہیں ہو سکتی ہے۔" مفقود الخبر کی بیوی کے متعلق سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ارشادات اور فیصلہ جات مذکور ہو چکے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فیصلہ زیادہ قوی اور موافق قواعد شرعیہ کے ہے اسی بنا پر حنفیہ نے اسی کو پسند کیا ہے مگر غیر مقلد وہابیوں کا ان میں سے کسی پر ایمان نہیں سب سے باغی ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ اُدھر کے۔ اسی وجہ سے حکیم صادق نے فتاویٰ عالمگیری پر جاہلانہ تنقید تو کی مگر اپنا مذہب نہ بتایا کہ کیا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس مسئلہ میں غیر مقلد وہابیوں کا کوئی مذہب نہیں چنانچہ ان کے میر سیالکوٹی نے واشگاف الفاظ میں اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ بحوالہ فتاویٰ ثنائیہ میر سیالکوٹی کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

۱: "اس امر (یعنی نکاح زوجۂ مفقود الخبر) کی تصریح نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ زمانِ نبوی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا اور آثار صحابہ اور مذاہب مجتہدین اس میں مختلف ہیں اور زمانۂ سلف میں اس امر میں کسی ایک قول پر اجماع بھی نہیں ہوا تو دلائل اربعہ میں سے صرف قیاس باقی رہ گیا۔ سو اس کی رو سے کسی خاص میعاد کا تقرر حکم شرعی نہیں ہو سکتا۔

۲: عورت کی حالت پر نظر کر کے لحوق ضرر کا لحاظ ضروری ہے جس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی جا سکتی (جلد ۲ ص ۵)

۳: مفقود کی زوجہ کو معسر کی زوجہ پر قیاس کرنا صحیح بلکہ اولیٰ ہے لہٰذا اس

Marfat.com

کی نسبت بھی عورت کے مطالبہ کے وقت فسخ (نکاح) کا حکم دیا جا سکتا ہے اور انتظار کے لیے کوئی خاص میعاد ضروری نہیں (جلد ۲ ص ۱۷۰)

۴: "ہماری (یعنی غیر مقلد وہابیہ کی) ناقص سمجھ میں یہی آتا ہے کہ حضرت عمر کا فیصلہ کوئی دائمی حکم نہیں۔ بلکہ حالاتِ زمانہ کے ماتحت اقتصادی تھا" (جلد ۲ ص ۱۶۹)

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ غیر مقلد وہابیوں کے میر سیالکوٹی کا فتویٰ نہ حضرت عمر کے قول پر ہے نہ حضرت علی کے قول پر۔ نہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت کردہ حدیثِ مرفوع پر ہے نہ قرآن مجید کی آیت والمحصنات من النساء پر۔ پھر تعجب ہے کہ یہ لوگ خود کو "اہل حدیث یا کتاب وسنّت" کا پیروکار کس منہ سے کہتے ہیں ان کا علم وعمل تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انہیں اہلِ اہواء اور اصحابِ خواہشات کے نام سے موسوم کیا جائے۔

سوال: میاں بیوی دونوں جوان ہیں اس حالت میں خاوند گم گیا تو جوان عورت کے لیے خاوند کی عمر ۹۰ برس ہونے تک انتظار کرنا بہت مشکل ہے۔ فقہ حنفی میں اس مشکل کا علاج کیا ہے؟

الجواب: فقہ حنفی وہابی مذہب کی طرح باطل آراء فاسد خیالات اور نفس پسند خواہشات کے مجموعہ کا نام نہیں بلکہ قرآن مجید حدیث شریف اجماعِ اُمّت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسائل واحکام کے مجموعہ کا نام فقہ حنفی ہے۔ بنا بریں علماء احناف نے اس مصیبت زدہ عورت کے لیے عفت صبر اور روزوں کی کثرت کو تجویز کیا ہے کیونکہ قرآن وحدیث نے اور اقوالِ صحابہ نے اسی علاج کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ اللہ عزوجل نے فرمایا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِن فَضْلِهٖ جو نکاح کی طرف کوئی راہ نہ پائیں وہ عفت سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے (سورۃ النور ع ۴)

مفقود الخبر کے طلاق دینے یا مرنے کی جب تک خبر نہیں آتی تب تک اس کی

Marfat.com

بیوی نکاح ثانی کی طرف راہ نہیں پاتی تو اسے بمطابق اس آیت کے صبر و عفت سے کام لینا چاہیئے۔ یہی اس کا قرآنی علاج ہے۔

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یَا مَعْشَرَ الشُّبَّانِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ اے گروہ جواناں تم میں جسے نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کرے کہ نکاح پریشان نظری و بدکاری سے روکنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے اور جسے نکاح ناممکن ہو اس پر روزے لازم ہیں کہ کسرِ شہوت نفسانی کر دیں گے (مشکوٰۃ صـ۲۶۷)

مفقود الخبر کی بیوی کے لیے جب نکاح ثانی ناممکن ہو گیا تو وہ بمطابق اس حدیث کے روزوں کی کثرت کرے یہی اس کا موافق سنت علاج ہے۔

سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں فَلْتَصْبِرْ مفقود الخبر کی بیوی صبر کرے (بیہقی جلد، صـ۴۴۶)

جو علاج کتاب و سنت سے ثابت ہو اس سے ہٹ کر وہابیہ کا دوسرے علاجوں کی تلاش میں سرگرداں و حیران پھرنا تعجب خیز و حیرت انگیز ہے۔ غیر مقلد وہابی سوچیں اور سوچ کر بتائیں کہ جو عورت ابتداء بلوغ سے معاذ اللہ جذام ابرص میں مبتلا ہو اور اس کے ساتھ ایسی کریہ المنظر بھی ہو کہ اسے کوئی شخص بحالت عدم جذام و برص بھی قبول نہ کرتا تو ایسی عورت کا صبر و عفت اور روزوں کی کثرت کے علاوہ کیا علاج تجویز کیا جا سکتا ہے؟ پھر جب مسئلہ مذکورہ میں حضرت شیر خدا نے زوجہ مفقود کو "فَلْتَصْبِرْ" کہہ کر پابند صبر کر دیا ہے تو اب چون و چرا کی کیا گنجائش رہی؟ کیا کوئی وہابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ایک بال شریف کی بھی برابری کر سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

Marfat.com

ایں خیال ست و محال ست و جنوں

تو پھر کتاب و سُنّت کی روشنی میں ان کے بتائے ہوئے علاج سے گریز کرکے اِدھر اُدھر منہ مارنے کا کیا فائدہ؟

اعتراض ۲۸: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسُول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کا ارشادِ گرامی ہے کہ "تم امام سے جلدی نہ کرو جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اور جب وہ ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو اور جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو (صحیحین و مشکوٰۃ جلد ا صـ۱۰۱) اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ امام سے پہلے امام کی اقتداء میں نماز شروع کرنا جائز نہیں مگر فتاویٰ عالمگیری اسے جائز کہتا ہے. ملاحظہ فرمائیں۔

"اگر اس (مقتدی) نے امام کی نماز میں شروع کرنے کی نیت کی اور امام نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی اور وہ اس بات کو جانتا ہے تو جب امام نماز شروع کرے گا تب اس مقتدی کی وہی نماز شروع ہو جاوے گی (جلد ا صـ۱۲۲)

الجواب: نام نہاد عبداللہ عفیف نے نہ حدیث کو سمجھا ہے نہ فتاویٰ کو۔ اور اپنی کج فہمی و بدسمجھی کا رونا رونے کی بجائے فتاویٰ عالمگیری پر اعتراض کر دیا کہ اس کا فلاں مسئلہ فلاں حدیث کے خلاف ہے (العیاذ باللہ) حدیث مذکور نے تو حکم دیا ہے کہ امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر نہ کہو اس کے ولا الضالین کہنے سے پہلے آمین نہ کہو اور اس کے رکوع سے پہلے رکوع نہ کرو۔ حدیث کا کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا یہ مطلب ہو کہ امام کے نماز شروع کرنے سے پہلے اس کی اقتداء کی نیت نہ کرو۔ اور فتاویٰ عالمگیری میں اس جگہ مسئلہ "نیت" کی بحث فرمائی گئی ہے ارکانِ نماز شروع کرنے کی نہیں چنانچہ "الفصل الرابع فی النیّة" کا عنوان قائم کرکے فتاویٰ میں لکھا ہے۔ لَوْ نَوَی الشُّرُوْعَ فِی صَلوٰةِ الْاِمَامِ وَالْاِمَامُ لَمْ یَشْرَعْ بَعْدُ وَھُوَ

Marfat.com

یَعلَمُ بِذٰلِکَ یَصِیرُ شَارِعًا فِی صَلوٰۃِ الاِمَامِ اِذَا شَرَعَ ...... وَلَو نَوَی الشُّرُوعَ فِی صَلوٰۃِ الاِمَامِ عَلٰی ظَنِّ اَنَّ الاِمَامَ قَدْ شَرَعَ وَھُوَ لَمْ یَشْرَعْ لَمْ یَجُزْ (ج ۱ ص ۱۲۶) اس جیسی عبارت قاضی خاں اور کبیری شرح منیہ میں بھی موجود ہے اس کا واضح تر اور نفیس تر مطلب "بہارِ شریعت" میں بدیں الفاظ ذکر فرمایا گیا ہے۔

مسئلہ: مقتدی نے یہ نیت کی کہ وہ نماز شروع کرتا ہوں جو اس امام کی نماز ہے اگر امام نماز شروع کر چکا ہے جب تو ظاہر کہ اس کی نیت اسے نماز صحیح ہے اور اگر امام نے اب تک نماز شروع نہ کی تو دو صورتیں ہیں۔

(۱) اگر مقتدی کے علم میں ہو کہ امام نے ابھی نماز شروع نہ کی تو بعد شروع وہی نیت کافی ہے۔

(۲) اور اگر اس کے گمان میں ہے کہ شروع کر لی ہے اور واقع میں شروع نہ کی ہو تو وہ نیت کافی نہیں (جلد ۳ ص ۴۶) پہلی صورت میں "وہی نیت کافی ہے" کی وجہ قاضی خاں نے اس طرح بیان فرمائی کہ لِاَنَّہٗ مَا قَصَدَ الشُّرُوعَ فِی صَلوٰۃِ الاِمَامِ لِلْحَالِ اِنَّمَا قَصَدَ الشُّرُوعَ فِی صَلوٰۃِ الاِمَامِ اِذَا شَرَعَ مقتدی نے فی الحال نماز شروع کرنے کی نیت نہیں کی بلکہ نیت یہ کی ہے کہ جب امام نماز شروع کرے گا تو اس کے بعد میں بھی شروع کر دوں گا۔ لہٰذا اس کی وہی نیت کافی ہے (جلد ۱ ص ۱۴ علی ہامش الفتاوی العالمگیریہ) اور دوسری صورت میں "وہ نیت کافی نہیں" کی وجہ کبیری میں اس طرح مرقوم ہے کہ لِاَنَّہٗ قَصَدَ الشُّرُوعَ فِی الْحَالِ فِی صَلوٰۃٍ مَنْ لَیْسَ بِمُصَلٍّ مقتدی نے غلط فہمی کی بنا پر یہ نیت کی ہے کہ میں امام کی نماز ابھی شروع کرتا ہوں۔ حالانکہ امام نے تو ابھی نماز شروع نہیں کی اس لیے "وہ نیت کافی نہیں" (ص ۲۹۳)

مخبرِ صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بعض پیشین گوئیوں میں چونکہ وہابیوں کو

Marfat.com

"سفہاالاحلام" کہا ہے یعنی بے عقل لوگ (نسائی جلد ۲ ص۱۳۱) اس لیے ان کی عقلیں ناکارہ ہیں اور سوچ سے یکسر محروم ہیں بات کو الٹا سمجھنا ان کی فطرت میں داخل ہے۔ اگر فتاویٰ عالمگیری کا مطلب غلط نہ سمجھیں تو انہیں وہابی کون کہے ؎

اُلٹی عقل کسی کو بھی ایسی خدا نہ دے

دے نجدیوں کو موت پر یہ بدا دانہ دے

اعتراض ۲۹: "کتے کی خرید و فروخت جائز ہے (فتاویٰ عالمگیری جلد ۳ ص۱۱۴ سطر ۲) حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کتے کی خرید و فروخت سے (مشکوٰۃ)

الجواب: وہابیہ (خذلہم اللہ) صرف نام کے مسلمان نام کے اہل حدیث اور نام کے مولوی ہیں نہ انہیں قرآن مجید کا علم ہے نہ احادیث شریفہ کا۔ اگر ان جاہلوں کو کتے کے متعلق وارد ہونے والی آیت اور حدیثیں معلوم ہوتیں۔ تو فتاویٰ عالمگیری پر اعتراض نہ کرتے بلکہ وہابیت کے پُر فریب جال سے نکل کر اپنے مسلمان آباؤ اجداد کی طرح حنفیت کو بدل و جان قبول کر لیتے۔ لیجئے پہلے قرآن مجید کی آیت پھر چند حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

آیت: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ تو کھاؤ اس شکار میں سے جو وہ (شکاری کتے وغیرہ) مار کر تمہارے لیے رہنے دیں۔ اور اس اللہ کا نام لو (المائدہ ع۱)

حدیث نمبر ۱: ابن المغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ پھر شکاری کتے کی اور بکریوں کے محافظ کی رخصت دے دی (مسلم ج ۲ ص۲۵)

حدیث نمبر ۲: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَأَخَذَ فَكُلْ۔ جب

Marfat.com

تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سدھایا ہوا کُتّا شکار پر چھوڑے اور کُتّا اُسے پکڑلے تو ایسے شکار کا کھانا تیرے لیے جائز ہے (نسائی جلد ۲ صـ۱۹۲)

حدیث ۳: ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نَہٰی عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ کُتّے کی قیمت سے منع فرمایا (مشکوٰۃ صـ۲۴۱)

حدیث ۴: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِلَّا کَلْبَ صَیْدٍ شکاری کتے کی قیمت سے منع نہیں فرمایا (نسائی صـ۱۹۵ بیہقی ج۶ صـ۶)

حدیث ۵: ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِیْ ثَمَنِ کلب الصَّیْدِ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکاری کُتّے کی قیمت لینے کی اجازت دی (مسند امام اعظم صـ۱۶۹)

معلوم ہوا کہ ابتداءِ اسلام میں کُتّوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر مفید اور غیر مضر کُتّوں کے حق میں یہ حکم منسوخ فرما دیا گیا بلکہ جو کُتّا شکار کر سکتا ہے اس کے شکار کو بھی قرآن و حدیث نے حلال قرار دیا۔ علماءِ احناف کی نظر چونکہ قرآن مجید پر اور سب حدیثوں پر ہے اور مختلف حدیثوں میں تطبیق دینے کی بفضلہٖ تعالیٰ بہت بڑی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جو کُتّے ضرر دیتے ہیں اور فائدہ نہیں دے سکتے ان کی خرید و فروخت بمطابق حدیث ۳ منع ہے اور جو ضرر نہیں دیتے فائدہ دیتے ہیں ان کے ساتھ خرگوش ہرن وغیرہ حلال جانوروں کا شکار کیا جا سکتا ہے ان کی خرید فروخت بمطابق حدیث ۴-۵ منع نہیں جائز ہے۔ جو کچھ ان حدیثوں سے ثابت ہوا ہے وہی کچھ فتاویٰ عالمگیری میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہابیہ نے دھوکا دینے کے لیے نقل عبارت فتاویٰ میں مجرمانہ خیانت کی ہے۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو۔

بَیْعُ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ جَائِزٌ .... وَبَیْعُ الْکَلْبِ الْغَیْرِ الْمُعَلَّمِ یَجُوْزُ اِذَا کَانَ قَابِلًا لِلتَّعْلِیْمِ وَاِلَّا فَلَا وَھُوَ الصَّحِیْحُ۔ جو کُتّا شکار کے لیے سدھایا گیا ہو

یا سدھایا جا سکتا ہو صرف اس کی بیع جائز ہے اور جو ایسا نہیں اس کی خرید و فروخت منع ہے یہی صحیح ہے (جلد ۳ صد ۱۱۴)

سوال: حدیث ۴ کو نسائی شریف میں "لَیْسَ ھُوَ بِصَحِیْحٍ" کہا گیا ہے۔

الجواب: لیکن محدث نسائی علیہ الرحمۃ نے "الرخصة فی ثَمَنِ الکَلْبِ" کا عنوان قائم کر کے اس حدیث سے شکاری کُتّے کی قیمت کا جواز بھی ثابت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ محدث مذکور کے نزدیک یہ حدیث "لَیْسَ ھُوَ بِصَحِیْحٍ" کہلانے کے باوجود درجۂ استدلال و احتجاج سے ساقط نہیں کیونکہ ماہرینِ اصولِ حدیث جانتے ہیں کہ عدم صحت سند مضمون حدیث کی عدم صحت کو مستلزم نہیں ہوتا۔ چنانچہ ترمذی ج ۱ ص ۳۳ و مشکوٰۃ ص ۲۷۵ میں ایک ایسی حدیث کو "لَا یَصِحُّ مِنْ قِبَلِ اِسْنَادِہٖ" کہا گیا ہے جس کا مضمون سورۃ النساء ع ۴ آیت ۱ کے موافق ہونے کی وجہ سے بالکل صحیح ہے۔ نیز حدیث ۵ نے "الاحادیث بعضها تقوی بعضا" کے ضابطہ کے تحت اس حدیث کو مستحکم کر دیا ہے۔ بلکہ قرآن و حدیث کی جن مقدس نصوص نے کُتّے کے شکار کو حلال قرار دیا ہے انہی کے ضمن میں اس کی خریداری کا جواز بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور حدیث نسائی کو مزید تقویت مل جاتی ہے کیونکہ اسلام مجموعہ اضداد کا نام نہیں کہ کُتّے کا شکار تو حلال ہو اور اس کی خریداری حرام اور قیمت ممنوع ہو۔

بنابریں ایک دفعہ ایک شخص نے کسی کے شکاری کُتّے کو قتل کر دیا تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے قضٰی فِی کَلْبِ صَیْدٍ قَتَلَہٗ رَجُلٌ بِاَرْبَعِیْنَ دِرْھَمًا۔ فیصلہ فرمایا کہ کُتّے کا قاتل اس کے مالک کو چالیس ۴۰ درہم ادا کرے (بیہقی صد ۸ جلد ۶ طحاوی جلد ۲ صد ۲۲۸) اگر شکاری کُتّے کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی تو مندرجہ فیصلہ ہرگز نہ فرمایا جاتا۔

اعتراض نمبر ۳: گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے۔ ہر گھوڑے کی ایک دینار دے یا قیمت

Marfat.com

ڈال کر دے۔ (عند ابی حنیفہ ہدایۃ جلد ۱ صفحہ ۹، عالمگیری ص ۱۷۸) حالانکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا۔ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی (ابوداؤد)

الجواب: نام نہاد اہل حدیثوں کا یہ اعتراض بھی ان کے جاہل بالحدیث ہونے کی دلیل ہے کیونکہ متعدد حدیثوں سے ثابت ہے کہ بعض صورتوں میں گھوڑوں کی زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

حدیث ۱: جانوروں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بعض سزاؤں کا ذکر کرتے ہوتے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا اَعْرِفَنَّ اَحَدَكُمْ يَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ فَرَسًا لَهٗ حَمْحَمَةٌ يُنَادِيْ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ میں تم میں سے کسی کو اس بری حالت کے ساتھ نہ پہچانوں کہ وہ بروز قیامت ہنہناتے گھوڑے کو اٹھا کر لائے اور یا رسول اللہ! یا رسول اللہ کہہ کر مجھ سے فریاد کرے (الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۱۲۲ الجوہر النقی علی البیہقی جلد ۴ ص ۱۲۰) اگر گھوڑوں کی زکوٰۃ کسی صورت واجب نہ ہوتی تو بروز محشر گھوڑا اٹھانے کی سزا کیوں ملتی؟

حدیث ۲: سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح نے سیدنا عمر ابن الخطاب (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کی طرف لکھا کہ اہل شام گھوڑوں کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ اس کی بابت آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب تحریر فرمایا کہ خُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ گھوڑوں کی زکوٰۃ ان کے مالکوں سے لے کر وہیں کے غریبوں کو دے دو (مؤطا امام مالک مع شرحہ تنویر الحوالک جلد ۱ ص ۲۶۳ و شرح الآثار مسوی مصفی جلد ۱ ص ۲۲۲)

حدیث ۳: ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ ظُهُوْرِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهٗ سِتْرٌ گھوڑے کی پیٹھ میں اور گردن میں جو اللہ تعالیٰ کا حق مقرر ہے اگر مالک اسے ادا کرتا رہے تو وہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے پردہ پوش ہوتا ہے (مشکوٰۃ ص ۱۵۵) گھوڑے کی گردن

Marfat.com

میں اللہ تعالیٰ کا مقرر حق زکوٰۃ ہی ہے (فتح القدیر شرح ھدایہ جلد ۲ صہ ۱۳۹ جدید)

حدیث ۴ : محدث زہری علیہ الرحمۃ سے مروی ہے انہیں سائب بن یزید نے خبر دی کہ رَأَیْتُ اَبِی یُقَوِّمُ الْخَیْلَ ثُمَّ یَدْفَعُ صَدَقَتَھَا اِلٰی عُمَرَ۔ میرے باپ گھوڑوں کی قیمت لگا کر ان کی زکوٰۃ حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی خدمت میں حاضر کیا کرتے (الجوہر النقی جلد ۴ صہ ۱۲۰)

حدیث ۵ : سیدنا سمرۃ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ یَاْمُرُنَا اَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِیْ نُعِدُّ لِلْبَیْعِ ہمیں حکم دیا کرتے کہ ہم تمام اموالِ تجارت کی زکوٰۃ نکالیں (مشکوٰۃ صہ ۱۶۰) معلوم ہوا جو شخص گھوڑوں کی تجارت کرتا ہے اس پر ان کی زکوٰۃ لازم ہے۔

سوال : حدیث میں ہے لَیْسَ عَلَی الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِیْ عَبْدِهٖ وَلَا فِیْ فَرَسِهٖ مسلمان پر اس کے خدمت گار غلام کی اور گھوڑے کی زکوٰۃ نہیں (مشکوٰۃ صہ ۱۵۸) دوسری حدیث میں ہے۔ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَیْلِ وَالرَّقِیْقِ گھوڑے کی اور خدمت گار غلام کی زکوٰۃ میں نے معاف کر دی ہے (مشکوٰۃ صہ ۱۵۹) ان دو حدیثوں کی مندرجہ بالا حدیثوں کے ساتھ مطابقت کی کیا صورت ہے ؟

جواب : یہ دو حدیثیں خاص صورت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یعنی وہ گھوڑا جس پر سوار ہو کر کفار سے جہاد کیا جائے اور بغرضِ تجارت نہ خریدا جائے اس کی زکوٰۃ معاف فرما دی گئی ہے جس طرح خدمت گار غلام کی زکوٰۃ نہیں یونہی اس گھوڑے کی بھی زکوٰۃ نہیں۔ تجارت کے گھوڑے چونکہ اموالِ تجارت میں داخل ہیں اس لیے ان کی زکوٰۃ مندرجہ بالا حدیثوں کی روشنی میں لازم ہے۔

معلوم ہوا کہ گھوڑوں کی زکوٰۃ نہ علی الاطلاق معاف ہے نہ علی الاطلاق لازم۔ بعض صورتوں میں معاف ہے اور بعض صورتوں میں لازم۔ فتاویٰ عالمگیری میں یہی

Marfat.com

مسئلہ اسی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ملاحظہ ہو (ترجمہ) "صاحبین کے نزدیک گھوڑوں کی زکوٰۃ نہیں۔ فتویٰ دینے کے لیے یہی قول مختار ہے ہاں اگر تجارت کے گھوڑے ہوں تو پھر دوسرے مال تجارت کی طرح ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی اگر نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ لازم ہو گی" (جلد۱ صـ۱۲۸)

اعتراض ۳۱: عالمگیری میں ہے۔ اگر کسی عضو پر نجاست لگ جائے تو اس کو تین مرتبہ زبان سے چاٹ لیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ (ترجمہ صـ۸۳ عربی صـ۴۵ جلد۱)

الجواب: وہابیہ نے اپنی ناقص الفہمی کی بنا پر "فتاویٰ عالمگیری" کی عالمی حیثیت نہیں سمجھی۔ یہ فتاویٰ بفضلہ تعالیٰ عالمی فتاویٰ ہے۔ اس میں وہ تمام مسائل حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو عالم اسلام میں عموماً یا خصوصاً پیش آتے رہتے ہیں یا آسکتے ہیں۔ تاکہ مملکت اسلامیہ کے قاضی صاحبان ان سے استفادہ کرکے نادر سے نادر واقعات و مقدمات کا حل دریافت کرسکیں۔

دنیائے عالم میں جہاں عاقل بالغ آباد ہیں وہاں پاگل اور بچے بھی رہتے ہیں ان کی وجہ سے بھی کئی مسئلے جنم لیتے رہتے ہیں۔ مندرجہ مسئلہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ ہاتھ کی کسی انگلی پر اگر پیشاب یا شراب یا خون لگ جائے تو انگلی کو اس نجاست سے صاف کرنے کے لیے پانی ہی استعمال کیا جاتا ہے مگر بچوں اور پاگلوں سے یہ امید نہیں رکھی جاسکتی کہ وہ اس نجاست کو پانی سے ہی صاف کریں گے۔ بلکہ یہاں ممکن ہے کہ بجائے انگلی دھونے کے اسے چاٹ لیں (العیاذ باللہ) اور چاٹنے کے بعد وہی انگلی کسی شخص کے پانی میں ڈبو دیں اور وہ شخص اسلامی عدالت میں اس نوعیت کا مقدمہ دائر کر دے کہ میں نے پچاس روپیہ کا (مثلاً) پانی خرید کر مٹکے میں ڈالا تھا۔ فلاں پاگل نے نجاست سے لبریز انگلی کو پہلے اچھی طرح چاٹا پھر اپنی انگلی میرے پانی میں ڈبو دی جس سے پانی پلید

Marfat.com

اور بے کار ہو گیا۔ لہٰذا مجھے پاگل کے مال سے پانی کی قیمت دلائی جائے تو جس قاضی نے فتاویٰ عالمگیری کا مندرجہ مسئلہ پڑھا ہو گا وہ یہ کہہ کر مقدمہ خارج کردے گا کہ جب مدعی خود تسلیم کرتا ہے کہ پاگل نے پہلے انگلی سے نجاست کو چاٹ کر زائل کر دیا تھا پھر پانی میں ڈبویا تھا تو پاگل کی انگلی کے سبب پانی پلید نہ ہوا کیونکہ جب انگلی پر سے نجاست زائل کر دی گئی تو نہ انگلی پلید رہی نہ پانی پلید ہوا۔ عبارتِ فتاویٰ کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ نجاست کو چاٹنا جائز ہے۔ یہ نجس فہمی صرف مخالفین کی دماغی نجاست کا نتیجہ ہے ؎

خُدا محفوظ رکھے ہر بلا سے
خصوصاً نجس فہمی کی وبا سے

فتاویٰ عالمگیری میں تو یہاں تک نفاست پسندی فرمائی گئی ہے کہ جو حلال جانور نجاست کھاتا ہو اسے نہ کھائیں بلکہ کئی دن تک باندھ رکھیں کہ نجاست نہ کھانے پائے پھر جب اس کا گوشت نجاست کے اثر سے پاک ہو جائے تو ذبح کر کے کھائیں۔ اونٹ چالیس دن تک باندھا جائے، گائے بیس دن تک بکری دس دن تک مرغی تین دن تک اور چڑیا ایک دن (صـ ۲۹۸ ج ۵)

سوال: کیا اس مسئلہ کی کوئی نظیر کتب حدیث میں موجود ہے؟

الجواب: بے شک اس کی نظیر حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ دیکھئے! بلی جو اکثر چوہے وغیرہ نجس اور پلید چیزیں کھاتی رہتی ہے جس وجہ سے اس کا منہ لب اور آس پاس کے بال پلید ہو جاتے ہیں اگر وہ پانی پیئے تو چاہیے کہ پانی پلید ہو جائے اور اس کا جوٹھا ناپاک سمجھا جائے کیونکہ پانی پیتے وقت پانی میں اس کا منہ لب اور بال سب ڈوب جاتے ہیں مگر حدیث شریف میں ہے کہ (اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسَةٍ) بلی نجس نہیں کہ اس کا جوٹھا ناپاک سمجھا جائے (ترمذی صـ ۱۴ جلد ۱) کیونکہ بلی کی عادت یہ ہے کہ کسی چیز

Marfat.com

کے کھانے کے بعد اپنا منہ وغیرہ چاٹ کر صاف کر لیتی ہے اگر چاٹنے سے نجاست حقیقیہ زائل نہ ہو جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوٹھے پانی کو یقیناً نجس اور پلید قرار دیتے ۔ فانہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب الطیبین واطہر الطاہرین

سوال: حدیث بالا میں بلی کے جوٹھے کے نجس نہ ہونے کی علت بدیں الفاظ بیان کی گئی ہے کہ (اِنَّمَا ھِیَ مِنَ الطَّوَّافِیْنَ عَلَیْکُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ) بلی گھروں میں آنے جانے والے نوکروں یا نوکرانیوں کی مانند ہے ۔ چاٹنے کی علت قرار نہیں دیا گیا۔

الجواب: جوٹھے کے ناپاک ہونے کے دو سبب ہوا کرتے ہیں ایک یہ کہ پینے والے کا لعاب ناپاک ہو اور اسے شریعت مطہرہ نے ازالۂ طہارت میں مؤثر قرار دیا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے منہ پر خارجی نجاست لگی ہوئی ہو بلی کا جوٹھا ان دونوں سببوں سے پاک ہے پہلے سے اس لیے کہ وہ گھروں میں بکثرت آتی جاتی ہے اگر لعاب کی وجہ سے اس کا جوٹھا ناپاک سمجھا جائے تو اہلِ خانہ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے اور دوسرے سے اس لیے کہ وہ اپنے منہ وغیرہ پر نجاست کو رہنے نہیں دیتی فوراً چاٹ کر صاف کر دیتی ہے ۔ حدیث میں پہلے سبب کی نفی کا ذکر صراحتہً ہے اور دوسرے کی نفی کا اشارۃً ۔ حنفی علماء چونکہ حدیث دانی میں سب پر فائق ہیں اور کتاب وسنت پر عمل کرنے میں سب سے آگے ہیں اس لیے وہ نصوص شرعیہ کی تصریحات کی طرح اشارات کو بھی کار آمد قرار دیتے ہیں اور سب پر حسب مراتب عمل کرتے ہیں ۔

چیلنج: اگر کوئی مخالف ذکر کردہ مٹکے کے پانی کو پلید کہنے پر مصر ہو تو اسے چاہیئے کہ اپنے سب سے بڑے مولوی سے اس مٹکے کے پلید ہونے کا فتویٰ بحوالہ کتاب وسنت لکھوا کر مہر لگوا کر شائع کرے اور انعام پائے ۔

ع نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے
یہ بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

Marfat.com

اعتراض ۳۲: جب کُتا ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت فروخت کرنا جائز ہے (فتاویٰ عالمگیری ص۱۱۵ ج ۳)

اعتراض ۳۳: تمام حرام شرابوں کا سوائے خمر کے فروخت کرنا جائز ہے (فتاویٰ عالمگیری ص۱۱۶ ج۳)

اعتراض ۳۴: گانے بجانے کے آلات مثلاً بربط۔ طبل مزمار وغیرہ کی بیع جائز ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ص۱۱۶ جلد ۳)

الجواب: جب عقل تقسیم کی گئی تو اس میں کچھ حصہ اگر معترضین کو بھی مل جاتا تو فتاویٰ عالمگیری پر اعتراض کرنے سے پہلے درج ذیل تین باتیں ضرور سوچتے۔

(۱) فتاویٰ عالمگیری نے ان مسئلوں میں صرف فروخت کرنے کو کیوں جائز لکھا ہے خریدنے کو کیوں نہیں لکھا؟

(۲) اشربہ محرمہ کی بیع سے خمر کو کیوں مستثنیٰ فرمایا؟

(۳) کُتے کے گوشت میں ذبح کی قید کیوں لگائی؟

لیکن یہ قسمت کے مارے جب بارشاد مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم وادیٔ سفاہت وضلالت میں بھٹک رہے ہیں تو اس کی ان باریک اور دقیق باتوں کی طرف رسائی کس طرح ہو سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ممالک اسلامیہ میں اہل اسلام ہی نہیں یہود و نصاریٰ اور ان جیسے دیگر کفار بھی شرائط مخصوصہ کی پابندی قبول کر کے رہ سکتے ہیں ان کے ہاں کتوں کا گوشت کھانا شراب پینا گانا بجانا سب جائز ہے مسلمان سربراہ ان کی اس خوراک و شراب پر اور مشاغل سرود و غنا پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ البتہ انہیں اسلام کی دعوت جبر و اکراہ کے بغیر دے سکتا ہے تو اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی حقانیت معلوم کر کے برضا و رغبت اسلام قبول کرے اور اس کے قبضہ میں مسلمان ہونے سے پہلے کی حرام شرابیں حرام گوشت اور آلاتِ سرود و غنا موجود ہوں تو وہ مسلمان ہونے کے بعد ان چیزوں کو کیا کرے؟ انہیں یونہی پھینک دے؟ یا کسی غیر مسلم کو بلا معاوضہ دے دے؟ یا معاوضہ لے کر دے؟ اگر

Marfat.com

معاوضہ لے کر غیر مسلم کے حوالے کرے تو کیا ان حرام چیزوں کے معاوضے کی رقم مسلمان کے لیے کھانی جائز ہے؟ یا ناجائز؟ ان تمام مسئلوں کا جواب دیتے ہوئے فتاویٰ عالمگیری نے ارشاد فرمایا کہ خمر اور غیر مذبوح کتے کا گوشت یہ دو چیزیں چونکہ حرام بھی قطعی ہیں اور پلید بھی قطعی۔ اس لیے ان کا بیچنا حرام ہے اور ان سے حاصل شدہ رقم کا استعمال کرنا ممنوع (انہیں پھینک دیا جائے) اور ان کے علاوہ دیگر مذکورۃ الصدر اشیاء کا غیر مسلم کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے اور معاوضہ کی رقم کا برتنا درست۔ کیونکہ یہ شرابیں حرام اور نجس تو ہیں لیکن اخبار آحاد سے ثابت ہونے کی وجہ سے خمر کی طرح قطعی نہیں اور کلب مذبوح حرام قطعی تو ہے مگر غیر مذبوح کی طرح نجس قطعی نہیں تو جو چیز حرام بھی قطعی ہو اور نجس بھی قطعی اس کا غیر مسلم کے ہاتھ پر فروخت کرنا بھی منع ہے۔ بنابریں فتاویٰ میں صرف بیچنے کا ذکر کیا گیا ہے خریدنے کا نہیں کیونکہ مسلمان کو یہ تو حکم دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو اپنی ملک سے نکال دے اسے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ انہیں خرید کر اپنی ملک میں لائے۔ وہابیو! بتاؤ تمہیں اس میں کون سی چیز کتاب و سنت کے خلاف نظر آئی کہ مرتبینِ "فتاویٰ عالمگیری" کی کوششوں کو سراہنے کی بجائے ان کی بے قدری کر رہے ہو اور موجودہ دور کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہو کہ متحدہ ہندوستان پر گیارہ سَو سال تک جن (سُنی حنفی) مسلمانوں نے حکومت کی اور جو علماء و مشائخ (قدست اسرارہم) یہاں پیدا ہوئے یا تشریف لائے وہ سب کے سب دین اسلام سے دُور تھے اور ناواقف۔ معاذ اللہ۔ سچا دین اور سچا مذہب تو صرف ہم وہابیوں کو چودھویں صدی میں برٹش گورنمنٹ (علیہ ما علیہ) کی نظر عنایت کی بدولت نصیب ہوا ہے ؎

شرم نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

ہماری مخلصانہ گذارش یہ ہے کہ وہابیت کی ناپاک بدعت کو چھوڑ کر سنیّت و حنفیت کا سیدھا راستہ اب بھی اختیار کر لو تاکہ دارین کی سعادت پاؤ اور جہنم کی بھڑکتی آگ سے

Marfat.com

بچ سکو ؎ باز آ و باز آ از آنچہ ہستی باز آ

سوال: جب شراب حرام ہوئی تھی تو صحابہ کرام نے سب شرابیں گرا دی تھیں۔

جواب: مسلمان ہونے کے بعد اب بھی شرابوں کو گرا دینا بہتر ہے لیکن کوئی غریب اگر غیر خمر کو غیر مسلم کے ہاتھ فروخت کرکے کچھ پیسے حاصل کرے تو شرعًا یہ بھی جائز ہے اگرچہ بہتر نہیں اسی لیے فتاویٰ عالمگیری نے اس بیع کو صرف جائز کہا ہے بہتر نہیں کہا کیونکہ بہتر وہی کام ہے جو صحابہ کرام نے کیا (رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم عنّا) عمومًا دیکھا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد نومسلم اپنے رشتہ داروں سے کٹ جانے کی وجہ سے بہت سی مالی مشکلات میں پھنس جاتا ہے فتاویٰ عالمگیری کے مرتبین نے اس کی پریشانی کم کرنے کے لیے اس کو پیسہ حاصل کرنے کے کچھ جائز طریقے بتا دیئے تاکہ ان پر عمل کرکے غیر مسلم کی کچھ رقم گھٹائے اور اپنی کچھ مالی پریشانی مٹائے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ وجزاہم عنا خیر الجزاء۔

اعتراض ۳۵: اگر کسی کو نکسیر پھوٹے اور خون نہ تھمے تو اگر وہ خون کے ساتھ اپنی پیشانی پر کچھ قرآن لکھا لے تو بقول ابوبکر اسکاف یہ جائز ہے اور بعض کا قول ہے کہ اگر پیشاب سے قرآن لکھ لے تو پھر بھی مضائقہ نہیں اگر اس سے اس کو شفا ہو (نعوذ باللہ) (فتاویٰ عالمگیری ص ۳۵۶ جلد ۵۔ قاضی خاں ص ۴۰۴ جلد ۳)

الجواب: (۱) جب قرآن مجید پر عمل کرنے کا حکم ملتا ہے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ آیات محکمات پر عمل کرو اور متشابہات پر صرف ایمان لاؤ (مشکوٰۃ ص ۲) حالانکہ متشابہات بھی قرآنی آیات ہیں۔ اور جب حدیث پر عمل کرنے کا ارشاد فرمایا جاتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ احادیث صحیحہ غیر منسوخہ پر عمل کرو (بخاری ص ۹۶-۶۱۳) حالانکہ احادیث منسوخہ مرجوحہ بھی کتب حدیث میں موجود ہوتی ہیں اور صحیح سندوں کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں۔ یونہی جب اہل سنت احناف علماء و مقتدر فضلاء حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرنگی دور کا ناپاک قانون تعزیرات ہند منسوخ کرو اور اس کی

Marfat.com

جگہ فقہ حنفی کو نافذ کر و تو اس کا مطلب بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کے وہ تمام مسائل نافذ کر و جن پر فتویٰ ہے غیر مفتیٰ بہ قول کے نفاذ کا مطالبہ ہرگز ہرگز نہیں ہوتا۔ وہابیہ نے اعتراض ۲۵ میں جو دو قول ذکر کئے ہیں ان میں سے کوئی قول بھی ہمارے ہاں مفتیٰ بہ نہیں اور ان میں سے کسی کے نفاذ کا مطالبہ نہیں۔ ہم تو پیشاب کو بھی اور خون کو بھی نجس و پلید سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ پاک کلام کے لکھنے کا فتویٰ کس طرح دے سکتے ہیں۔ البتہ اس قسم کے فتویٰ کی توقع تو وہابیہ سے کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ان کے مذہب میں خون بھی پاک ہے اور پیشاب بھی بلکہ ام الخبائث شراب بھی۔ (ملاحظہ ہو "لغات الحدیث" مصنفہ وحید الزمان نام نہاد اہل حدیث ص۸ ن ص۴۶ و ص۲۲ س)

الجواب ۲: مندرجہ بالا دو قولوں میں سے صرف پہلا فتاویٰ عالمگیری میں ذکر کیا گیا ہے دوسرا نہیں۔ اور دونوں اکٹھے فتاویٰ عالمگیری کی بجائے صرف قاضی خاں میں مذکور ہیں اور قاضی خاں نے ان دونوں کا قائل صرف ابوبکر اسکاف کو قرار دیا ہے۔ وہابیہ نے جہاں دونوں کو فتاویٰ عالمگیری کی طرف منسوب کر کے دھوکا دیا ہے وہاں دونوں کا قائل الگ الگ بتا کر جہالت بھی کی ہے۔ قاضی خاں پر مولیٰ کریم جل مجدہٗ ہزاروں رحمتیں نازل کرے کہ انہوں نے دونوں کے آخر میں "لَوْ كَانَ فِيْهِ شِفَاءٌ لَا بَأْسَ بِهٖ" لکھ کر وہابی اعتراض کا پوری طرح قلع قمع کر دیا ہے۔ کیونکہ لفظ "لَوْ" کے متعلق امام راغب فرماتے ہیں لِامْتِنَاعِ الشَّيْئِ لِامْتِنَاعِ غَيْرِهٖ یعنی "لَوْ" اپنی شرط و جزاء کے دونوں جملوں کے امتناع پر دلالت کرتا ہے۔ (مفردات ص۴۷۸) تو اس صورت میں عبارت قاضی خاں کے معنے یہ ہوئے کہ "اس کتابت کے سبب اگر شفا ممکن ہوتی تو کتابت کو جائز قرار دیا جاتا مگر شفا تو ممکن نہیں ممتنع ہے لہذا کتابت بھی جائز نہیں ممنوع ہے۔ معلوم ہوا کہ کتابت بالبول کے جواز پر ابوبکر اسکاف کا بھی فتویٰ نہیں وہ بھی اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ مگر وہابیہ کی نادانی انہیں صحیح مفہوم کے سمجھنے سے روک رہی ہے

Marfat.com

آنکس کہ نداند و بداند کہ بداند
درجہلِ مرکب تا ابد بماند

اعتراض ۳۶ : فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ صفحہ ۲۵۲ سطر ۲۴ اور ردالمحتار جلد ۳ صفحہ ۲۷۸ وغیرہ میں ایک عجیب قیاس بھی لکھا ہے کہ "اگر ذمی ایک دینار جزیہ سے ادا نہ کرے تو اس کا عہد ٹوٹ گیا اور خون اور مال اس کا حلال ہو گیا اگر بیت اللہ شریف کو جلائے اور مسجدِ نبوی کو ویران کر دے اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دے تو پناہ اور عہد اس کا باقی ہے اور خون اور مال اس کا محفوظ و معصوم"۔

الجواب : سلطنت اسلامیہ کی طرف سے ذمی کافر پر جو مقرر کیا جاتا ہے اسے "جزیہ" کہتے ہیں (بہارِ شریعت جلد ۹ صـ ۱۰۶) اور ذمی اس کافر کو کہا جاتا ہے جسے بعوض جزیہ سلطنت اسلامیہ میں پناہ دی گئی ہو تاکہ وہ مہلت پا کر اسلام کے محاسن اور دلائل کی قوت دیکھے اور مشرف باسلام ہونے کا موقع پائے (خزائن العرفان صـ ۲۲۸ حاشیہ ۸ وغیرہ) قرآن مجید میں ہے۔ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَۃَ عَنْ یَّدٍ وَّھُمْ صٰغِرُوْنَ (کتابی کافروں سے جہاد کرو) یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر جزیہ دیں (التوبۃ ۲۹)

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سُنُّوْا بِھِمْ سُنَّۃَ اَھْلِ الْکِتَابِ غیر کتابی کافروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کتابی کافروں کے ساتھ کرتے ہو یعنی مجوس وغیرہ کفار کو بھی جزیہ قبول کرنے کی صورت میں ذمی بنا لیا جائے (مؤطا امام مالک مع شرحہ تنویر الحوالک جلد ۱ صـ ۲۶۴) اس حکم سے کفار قریش اور مشرکین عرب مستثنیٰ ہیں ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جاتا بلکہ یہاں اسلامی قانون یہ ہے کہ مشرف باسلام ہو جائیں ورنہ قتل کر دیئے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے۔ قَاتِلُوْھُمْ حَتّٰی لَا تَکُوْنَ

Marfat.com

فِتْنَةٌ ان کافروں سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنۂ کفر و شرک مٹ جائے (البقرہ ع۲۴)
ان دو آیتوں کا جو مطلب اور محمل بیان کیا گیا ہے اسے ابن المنذر نے ابن شہاب سے نقل فرمایا ہے (تفسیر درمنثور ج ۳ ص۲۲۸) مزید تشریح کے لیے احادیثِ مبارکہ ملاحظہ ہوں۔

حدیث ۱: حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کافروں کی طرف لشکر روانہ فرماتے تو امیرِ لشکر کو تین باتوں کا حکم دیتے۔

- "اُدْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ" کافروں کو اسلام کی دعوت دے۔
- اگر نہ مانیں تو "سَلْهُمُ الْجِزْيَةَ" ان سے جزیہ کا مطالبہ کر۔ اگر جزیہ دینا قبول کرلیں تو "كُفَّ عَنْهُمْ" ان کے قتل و قتال سے پرہیز کر۔
- اگر جزیہ قبول نہ کریں "فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَقَاتِلْهُمْ" تو اللہ سے مدد مانگ اور اور ان سے جنگ کر (مسلم ص۸۲ ج ۲)

حدیث ۲: حضرت خالد بن ولید "دومہ" کے کتابی بادشاہ اُکیدر کو پکڑ کر حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے "فَحَقَنَ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ" تو آپ نے اس کا خون معاف فرما دیا اور اس شرط پر صلح کی کہ وہ جزیہ دیا کرے گا (مشکوٰۃ ص۳۵۳)

حدیث ۳: اَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ کفار و مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو (مشکوٰۃ ص۳۵۵)

حدیث ۴: لَا اَدَعُ فِيْهَا اِلَّا مُسْلِمًا جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے سوا کسی کو نہ رہنے دوں گا (مشکوٰۃ ص۳۵۵)

حدیث ۵: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ مسلمانوں پر جزیہ مقرر نہیں کیا جاتا (مشکوٰۃ ص۳۵۳)

ان آیاتِ کریمہ و احادیثِ شریفہ سے درج ذیل مسائل معلوم ہوتے۔

مسئلہ ۱: جزیرۂ عرب میں خصوصاً حرمین طیبین میں کافروں کو بطورِ ذمی آباد نہیں کیا جاسکتا انہیں مسلمان ہونا پڑے گا ورنہ قتل کردیئے جائیں گے یا نکال دیئے

Marfat.com

جائیں گے۔ تو بیت اللہ شریف کو جلانے اور مسجد نبوی شریف کو ویران کرنے کا گناہ ذمیوں سے کس طرح سرزد ہو سکتا ہے جب وہ ان مقاماتِ مقدسہ میں آباد ہی نہیں کئے جا سکتے تو ان جرموں کا ارتکاب کس طرح کریں گے۔ بنابریں فتاویٰ عالمگیری اور "ردالمحتار" میں ذمیوں کے جرموں میں ان دو کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وہابیہ نے ان کتابوں پر افترا باندھا ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ اور اپنے دل کی سیاہی کو مزید گہرا کرنے کے لیے جھوٹے صفحے اور جھوٹی سطریں لکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مفتریوں کے جھوٹے مذہب سے مسلمانوں کو بچائے۔

ابوالکلام آزاد کے والد ماجد نے کیا خوب فرمایا ؎

وہابی بے حیا جھوٹے ہیں یارو
تڑاتڑ جوتیاں تم ان کو مارو (آزاد کی کہانی صہ ۳۶)

مسئلہ ۲: ان کے علاوہ دیگر کفار و مشرکین اگر جزیہ دینا قبول کرلیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنے سے گریز کیا جائے گا اور ان کے مال و جان کی حفاظت کی جائے گی ورنہ جنگ ضروری ہے اور ان کے مال و جان غیر محفوظ۔ یہی مسئلہ فتاویٰ عالمگیری میں بدیں الفاظ ذکر کیا گیا ہے۔ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ اَدَاءِ الْجِزْيَةِ .... لَمْ يَنْتَقِضْ عَهْدُهٗ وَلَوِ امْتَنَعَ عَنْ قَبُوْلِهَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهٗ یعنی جس ذمی کافر نے ابتداءً جزیہ دینا قبول کرلیا پھر کسی وجہ سے وقت پر ادا نہ کیا تو ادا نہ کرنے سے اس کا عہد نہ ٹوٹا ہاں اگر جزیہ قبول کرنے سے رک گیا تو عہد نہ رہا (جلد ۲ صہ ۲۵۲) وہابیہ کا ہماری طرف یہ عبارت منسوب کرنا۔ "اگر ذمی ایک دینار جزیہ سے ادا نہ کرے تو اس کا عہد ٹوٹ گیا"۔ ہم پر بہتان و افتراء ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں اور ردالمحتار میں اس عبارت کا ذکر ہرگز نہیں۔

وہابیو! اگر مذہب وہابیت وغیر مقلدیت کی نشوونما جھوٹ پر موقوف ہے تو مرتے دم تک اس مذہب نامہذب پر قائم رہنے کی کیا ضرورت ہے فوراً توبہ کرو اور سنیت و حنفیت کو بدل و جان قبول کرلو ورنہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّیْ لَشَدِیْدٌ۔

Marfat.com

؎ خدارا باز آجاؤ وہابیت کی بدعت سے
پکڑ لو دامنِ سُنّت بزرگوں کی عنایت سے

مسئلہ ۳۳: صرف کافروں کو ذمی بنایا جاتا ہے مسلمانوں کو نہیں یونہی جزیہ صرف کافروں پر مقرر کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں پر نہیں تو اگر کسی کافر نے ذمی بننے کے بعد اللہ و رسول (جلّ جلالہٗ وصلی اللہ علیہ وسلّم) کی شانِ اقدس میں گستاخی بکی تو اس نے کفر ہی کیا وہ پہلے بھی کافر تھا اب بھی کافر ہے۔ جب قرآن وحدیث نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ کافروں پر جزیہ لازم کرکے ان سے معاہدہ کر لیا کریں تو پھر اس معاہدے کے ٹوٹنے کا سبب کفر ہی کو کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا وہابی اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ کیا وہ سچ مچ "كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ" ہو چکے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ کفار حربی ہوں یا ذمی سب کے سب شانِ الوہیت و شانِ رسالت میں سخت بے ادب اور سخت گستاخ ہوا کرتے ہیں لیکن اہل ذمہ چونکہ ہم مسلمانوں کی پناہ میں آجاتے ہیں اس لئے ان پر لازم کیا جاتا ہے کہ علی الاعلان گستاخی کا ارتکاب نہ کریں ورنہ سزا پائیں گے اس پر بھی اگر باز نہ آئے تو قتل کر دیئے جائیں گے فقہ حنفی کی بعض عبارات ملاحظہ ہوں۔ يُؤَدَّبُ الذِّمِّيُّ وَيُعَاقَبُ عَلٰى سَبِّهٖ دِيْنَ الْاِسْلَامِ اَوِ الْقُرْآنَ اَوِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذمی کافر کو ادب سکھایا جائے گا اگر اس نے دین اسلام کو یا قرآن مجید کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلّم کو بُرا کہا اور گالی بکی تو اسے سزا دی جائے گی (تنویر الابصار مع شرحہ الدر المختار جلد ۱ ص ۴۷۶) علامہ ابنِ عابدین علیہ الرحمۃ نے اس عبارت پر حاشیہ لکھا ہے کہ اَطْلَقَهٗ فَشَمِلَ تَادِيْبَهٗ وَعِقَابَهٗ بِالْقَتْلِ اِذَا اعْتَادَهٗ وَاَعْلَنَ بِهٖ۔ صاحب تنویر نے لفظ "عقاب" مطلق ذکر کیا ہے جو "عقاب بالقتل" کو بھی شامل ہے لہٰذا اگر ذمی کافر بدکلامی کا عادی ہو گیا اور اس نے علی الاعلان گالی بک دی تو اسے قتل کر دیا جائے گا (رد المحتار ج ۳ ص ۲۷۹) خلاصۃ المرام آنکہ ذمی کافر ہوتا ہے کافر گستاخ ہوتا ہے

Marfat.com

تو محض گستاخی سے عقد ذمہ نہیں ٹوٹتا البتہ اہل ذمہ کو قانوناً گستاخی سے روکیں گے نہ رکے تو ماریں گے اس پر بھی نہ رکے تو قتل کر دیئے جائیں گے۔ وہابیہ چونکہ خود شانِ الوہیت شانِ رسالت شانِ ولایت میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں اس لیے انہیں فقہاء اُمّت کی عبارات کے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا۔ حدیث میں ہے کچھ یہودیوں نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کی کہ انہوں نے بجائے سلام کے آپ کے لیے لفظ "سام" استعمال کیا جس کے معنی موت کے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا تو نہ دی بلکہ ان کے الفاظ ان پر لوٹا دیئے (مشکوٰۃ ص۳۹۸) لیکن آپ نے یہودیوں کے سردار کعب ابن الاشرف کو جو علی الاعلان بار بار گستاخی کرتا تھا قتل کروا دیا (بخاری ص۵۷۶) معلوم ہوا کہ ایک دفعہ کی گستاخی میں اور بار بار کی گستاخیوں میں فرق ہے۔ دونوں جرموں کی سزائیں الگ الگ ہیں۔

مسئلہ ۴۔ فقہاء احناف نے مسئلہ جزیہ کے متعلق جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ براہ راست مذکورۃ الصدر حدیثوں سے ثابت ہے اسے "عجیب قیاس" سے تعبیر کرنا وہابیہ کی عجیب حماقت وجہالت ہے ان بے چاروں کو نہ قیاس کا پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے نہ حدیثوں کی خبر ہے کہ وہ بمتعلق اہل ذمہ کیا حکم دیتی ہیں۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں ہی کی بابت پیشگوئی فرمائی کہ "جاہل ہوں گے فتوے دیں گے خود بہکیں گے دوسروں کو بہکائیں گے" العیاذ باللہ (مشکوٰۃ ص۳۳)

اعتراض ۳۷: فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ "اگر کسی نے نماز میں قہقہہ مارا تو وضو اس کا جاتا رہا اور اگر گانے لگے یا جھوٹی گواہی دے تو وضو اس کا برقرار ہے"۔

الجواب: نماز میں قہقہہ مارنا بھی گناہ ہے گانے گانا بھی اور جھوٹی گواہی دینا بھی۔ پہلا چھوٹا گناہ ہے دوسرا بڑا اور تیسرا بہت بڑا۔ قیاس یہی چاہتا ہے کہ جب بڑے گناہ سے

Marfat.com

وضو نہیں ٹوٹتا تو چھوٹے سے بھی نہ ٹوٹے۔ مگر فتاوی عالمگیری عربی ص۱۲ جلد۱ میں لکھا ہے کہ "رکوع وسجود والی نماز میں اگر عاقل بالغ نے قہقہہ مارا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی"۔ یہ مسئلہ چونکہ قیاس کے خلاف ہے اس لیے وہابیہ نے اسے بھی اپنے ناپاک اعتراضوں کا نشانہ بنایا مگر انہیں یہ خبر نہیں کہ احناف کرام نے اس مسئلہ کو قیاس سے ثابت نہیں کیا۔ بلکہ حدیث شریف سے اخذ فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلٰوةِ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ۔ جس شخص نے نماز میں قہقہہ مارا تو وہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے (رواہ ابن عدی فی الکامل عمدۃ القاری ص۴۸ ج۳ فتح القدیر مع الہدایہ وشروحہ ص۴۶ ج۱ الجوہر النقی مع السنن البیہقی ج۱ ص۱۴۶)

علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے عمدۃ القاری میں اس مضمون کی گیارہ حدیثیں چار مرسل سات مسند ذکر کرکے فرمایا ہے کہ فَبِكَثْرَتِهَا وَاخْتِلَافِ طُرُقِهَا وَمُتُوْنِهَا وَرُوَاتِهَا تَتَعَاضَدُ وَتَتَقَوّٰى عَلٰى مَا لَا يَخْفٰى یہ حدیثیں اپنی کثرت کی وجہ سے نیز سندوں متنوں اور راویوں کے مختلف ومتعدد ہونے کے سبب ایسی مضبوط اور قوی ہو چکی ہیں کہ اس میں کچھ خفا نہیں رہی۔

سوال: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔ اِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلٰوةِ أَعَادَ الصَّلٰوةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوْءَ۔ جب کوئی نماز میں ہنس پڑے تو وہ صرف نماز کا اعادہ کرے وضو کا نہیں (بخاری جلد۱ ص۲۹)

جواب: یہ حدیث مذکورۃ الصدر حدیثوں کے معارض نہیں کیونکہ ان حدیثوں میں قہقہہ کا ذکر ہے اور اس حدیث میں ضحک کا۔ ضحک فی الصلوۃ سے صرف نماز ٹوٹتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ قہقہہ سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی۔ حنفی علماء چونکہ تمام غیر منسوخ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں اس لیے انہوں نے مسئلہ مذکورہ کی تفصیل

Marfat.com

کرتے ہوئے فرمایا کہ ہنسنے کی تین قسمیں ہیں (۱) "تبسم" اس میں صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں آواز نہیں نکلتی (۲) "ضحک" اس میں خفیف آواز نکلتی ہے جسے وہ خود سُن سکتا ہے آس پاس والے نہیں سُن سکتے (۳) "قہقہہ" اس میں اتنی آواز نکلتی ہے کہ آس پاس والے بھی سُن لیتے ہیں۔ پہلی قسم سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز دوسری قسم سے نماز ٹوٹتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا اور تیسری قسم سے نماز بھی ٹوٹتی ہے اور وضو بھی (عالمگیری ج۱ ص۱۲ ہدایہ ج۱ ص۲۷)

شیطانی قیاس: مسائل کے اثبات کے چار اصول ہیں (۱) قرآن مجید (۲) حدیث شریف (۳) اجماع امت (۴) قیاس شرعی۔ وہابیہ کے پاس مسئلہ مذکورہ کی بابت احناف کے مقابلہ میں نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث نہ اجماع امت ہے نہ قیاس شرعی۔ اور جس قیاس کا انہوں نے سہارا لیا ہے وہ شرعی نہیں۔ کیونکہ شرعی قیاس وہ ہوتا ہے جس سے نصوص شرعیہ میں سے کسی غیر منسوخ نص کی مخالفت لازم نہ آتی ہو۔ اور قیاس مذکور تو حدیث مذکور کے صریح مخالف ہے لہٰذا غیر شرعی ہے اور غیر معتبر۔ مولائے کائنات سیدنا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ۔

"قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ موزوں کے نیچے مسح کیا جائے کیونکہ ان کا صرف نچلا حصّہ زمین پر لگتا ہے۔ مگر حضورِ اقدس صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے ہمیشہ اوپر مسح کیا تھا اس لیے یہاں قیاس اور رائے کی بجائے حدیث وسُنّت پر عمل کیا جائے گا (مشکوٰۃ ص۵۴)

نص کے مقابلہ میں قیاس کرنے کی بدبختی سب سے پہلے شیطان کو حاصل ہوئی تھی۔ بولا (الٰہی) میں آدم سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے (الاعراف ع۲) اسی بنا پر ملعون ابدی قرار پایا۔ پھر اس کی روحانی اولاد نے ہمیشہ اس کے شیطانی قیاس کا سہارا لیا اور نصوص شرعیہ کا انکار کرکے ان کے ماننے والوں پر بذریعہ قیاس غیر شرعی طعن وتشنیع کیا۔ چنانچہ کفارِ مکہ نے اہلِ اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا۔ تَاْکُلُوْنَ مَاذَبَحْتُمْ وَلَاتَاْکُلُوْنَ مَاذَبَحَ اللّٰهُ مِنَ الْمَیْتَةِ۔ مسلمانو! تم اپنا ذبح

Marfat.com

کیا ہوا جانور تو کھا لیتے ہو پر اللہ کا ذبح کیا ہوا مردار جانور نہیں کھاتے (تفسیر قرطبی ج۲ ص۹۳)
بنا بریں ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتے اور شیطان کے ساتھی بنے (العیاذ باللہ) جس طرح شیطان
نے اور اس کی اولاد نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل قیاس کیا تھا یونہی منکرین فقہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث (مَنْ ضَحِكَ فِی الصَّلٰوۃِ قَہْقَہَۃً) کے مقابل
قیاس کیا ہے وہابیہ کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی۔ کہ اپنے سنی حنفی آباؤ اجداد کے صحیح
طریقے کو چھوڑ کر اس طریقے پر گامزن ہو گئے ہیں جسے شیطان نے اپنے لیے اور اپنی اولاد
کے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
مزار پر انوار کے ہر ذرے پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے ہمیں اصولِ اربعہ کے
درمیان نفیس ترتیب بتائی کہ قیاس کا درجہ سب سے مؤخر ہے اور نص کے مقابل قیاس
کرنا ممنوع ہے اور جب کوئی مسئلہ کسی غیر منسوخ حدیث شریف سے ثابت ہو جائے
تو اسے قیاس کے ذریعہ رد کرنا حرام ہے۔ وہابیو! اب بھی وہابیت سے توبہ کر لو سنیت و
حنفیت کو بدل و جان قبول کر لو نجات پاؤ گے۔ ورنہ

ہے جہنم دشمنانِ اولیاء کے واسطے

(اَللّٰھُمَّ دِقِّ تَوْبَۃً نَصُوحًا)

نوٹ: قہقہہ کا مسئلہ فتاویٰ عالمگیری کے جس صفحہ پر مذکور ہے وہابیہ نے اس کا نمبر
نہیں لکھا کیونکہ اس صفحہ پر دوسرے ان دو مسئلوں کا ذکر تک نہیں کیا گیا جنہیں وہابیہ
نے مقیس علیہما قرار دے کر احناف پر اعتراض کیا ہے۔ اس طرح وہ اپنی چوری چھپانا
چاہتے تھے مگر ہم نے جلد ۱ صفحہ ۱۲ لکھ کر چوروں کی چوری ظاہر کر دی جس کا جی چاہے صفحہ
مذکورہ نکال کر دیکھ لے۔ اسے نہ گانے کا مسئلہ نظر آئے گا نہ جھوٹی گواہی کا۔

اعتراض ۳۸: فتاویٰ عالمگیری جیسی خود ساختہ فقہ کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ تمام
قرآن کے سیکھنے سے فقہ کا سیکھنا اچھا ہے (العوذ باللہ)

Marfat.com

جواب: اصل عربی عبارت یہ ہے۔ رَجُلٌ تَعَلَّمَ بَعْضَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ وَجَدَ فَرَاغًا فَاِنَّہٗ یَتَعَلَّمُ تَمَامَ الْقُرْاٰنِ وَتَعَلُّمُ الْفِقْهِ اَوْلٰی مِنْ تَعَلُّمِ تَمَامِ الْقُرْاٰنِ یعنی اگر کسی نے ابھی تک پورا قرآن مجید نہیں سیکھا صرف کچھ آیتیں سیکھی ہیں جن سے نماز ادا کر سکتا ہے پھر اسے پورا قرآن مجید سیکھنے کی فراغت مل گئی تو اسے پورا قرآن مجید سیکھ لینا چاہیئے مگر چونکہ پورا قرآن مجید سیکھنا آسان نہیں خصوصًا اہل عجم کو اس پر کئی سال صرف کرنے پڑتے ہیں اور مسلمانوں جیسی زندگی گزارنے کے لیے تو فقہی مسائل کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے بنا بریں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ فقہ کے ضروری مسائل کی تعلیم ابھی سے شروع کر دے اسے پورا قرآن مجید سیکھنے تک مؤخر نہ کرے ورنہ سالہا سال تک مسلمانوں جیسی زندگی گزارنے سے محروم رہے گا (عالمگیری ج ۵ ص ۲۷۹)

عربی عبارت کا جو مفہوم عرض کیا گیا ہے اسے کسی فقیہ نے اپنے دل سے نہیں گھڑا بلکہ متعدد حدیثوں سے اخذ فرمایا ہے۔

ع۱ : حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نومسلم کو نماز سے متعلق فقہ کے ضروری مسائل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اِنْ کَانَ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاقْرَاْ وَاِلَّا فَاحْمَدِ اللّٰهَ وَکَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْکَعْ اگر تجھے قرآن مجید کی کچھ آیتیں یاد ہیں تو انہیں رکوع سے پہلے پڑھ۔ ورنہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ اَللّٰهُ اَکْبَرُ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ پڑھ کر رکوع کر (مشکوٰۃ ص ۷۶) اگر پورا قرآن مجید سیکھنا فقہی مسائل جاننے سے اولیٰ ہوتا تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فقہی مسائل نہ بتاتے بلکہ حکم دیتے کہ پہلے پورا قرآن مجید سیکھ پھر مسائل فقہ بتائیں گے۔

ع۲ : ایک شخص کی دس بیویاں تھیں جب اس نے اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے چھ کے چھوڑنے کا حکم دیا اور چار کے رکھنے کی اجازت بخشی آپ نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے پورا قرآن مجید سیکھ پھر تجھے فقہ کا یہ مسئلہ بتائیں گے کہ تیرے لیے کتنی

Marfat.com

بیویاں جائز ہیں اور کتنی حرام (مشکوٰۃ ص۲۷۴)

۳-۴-۵: ایک عورت نے غسلِ احتلام کے متعلق دوسری نے غسلِ حیض کے متعلق تیسری نے غسل جنابت کے متعلق مسائل پوچھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ پہلے پورا قرآن مجید سیکھ پھر فقہ کے مسائل پوچھ بلکہ آپ نے ہر ایک کو ضروری مسائل سے آگاہ فرمایا (مشکوٰۃ ص۴۸) بلکہ جس عورت نے بحالت حیض یا بحالت نفاس اسلام قبول کر لیا وہ جب تک پاک نہیں ہوتی تب تک قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتی لیکن حیض و نفاس طہر و غسل سے متعلق مسائل فقہ ضرور اور فی الفور سیکھے گی۔

۶: حضرت عمیر نے صفوان بن امیہ سے اسلام لانے سے پہلے غزوہ بدر کے بعد کہا "میں مقروض ہوں اور عیالدار۔ ورنہ محمد (مصطفےٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو مدینے جا کر مار دیتا"۔ صفوان نے کہا اگر تو یہ کام کرے تو تیرا قرضہ میں ادا کروں گا اور تیرے بچے میرے بچوں کے ساتھ پلیں گے۔ اس کے بعد عمیر بارادۂ فاسد مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی وجہ پوچھی۔ عمیر نے جھوٹ بولا کہ اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں۔ اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تو تو مجھے شہید کرنے کی غرض سے آیا ہے آپ نے صفوان کے ساتھ ہونے والی پوری گفتگو بیان فرما دی۔

؎ عمیر پاک پر سنتے ہی رعشہ ہو گیا طاری
کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر داری

عمیر نے فی الفور اسلام قبول کر لیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا فَقِّهُوْا اَخَاكُمْ دِيْنَهٗ فَاَقْرِءُوْهُ الْقُرْاٰنَ۔ اپنے بھائی عمیر کو دین کے فقہی مسئلے بتاؤ پھر اُسے قرآن مجید پڑھاؤ (نسیم الریاض ص۱۸۴-۱۸۵ ج ۳)

Marfat.com

اس حدیث میں تعلیم فقہ کو تعلیم قرآن سے پہلے ذکر فرمایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ فتاویٰ عالمگیری کا یہ مسئلہ بھی دیگر مسائل کی طرح بالکل درست ہے اور احادیثِ مبارکہ کے مطابق۔ لیکن وہابیہ اپنی جہالت وضلالت کے باعث سخن شناسی سے محروم ہیں (العیاذ باللہ) ہمارا مشورہ ہے کہ جس طرح انگریزوں کے ناپاک دور سے پہلے ان کے آباؤ اجداد سُنی حنفی تھے یونہی یہ بھی سُنی حنفی ہو کر ہمارے بھائی بن جائیں۔ ضد وعناد کو ترک کر دیں کیونکہ ؎

مذہب نہیں سکھاتا حق سے عناد رکھنا
سُنی بنو! تو ہوگا ہم تم میں دوستانہ

جوابِ ۲: فتاویٰ عالمگیری کے مفتی بہا مسائل تمام کے تمام یا قرآن وحدیث سے ثابت ہیں یا اجماع امت وقیاس شرعی سے تو اس مقدس فتاویٰ کو خود ساختہ فقہ سے تعبیر کرنا منکرین کی جہالت وسفاہت ہے۔

فتاویٰ عالمگیری کی علمی وشرعی حیثیت معلوم کرنے کے لیے وہابی حضرات کو ایک طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے چھوٹے بڑے تمام مولویوں کو لاہور کے شاہی قلعہ میں بند کر دو اور قرآن مجید وکتب حدیث غیر مترجم وغیر محشی ان کے حوالے کر دو اور ایسا زبردست پہرہ لگا دو کہ ان تک کتب فقہ وکتب اصول فقہ وغیرہ میں سے کوئی کتاب نہ پہنچ سکے پھر انہیں کہو کہ "فتاویٰ عالمگیری" کی مثل کتاب تیار کرو تو ان کے مولوی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے مگر فتاویٰ جیسی کتاب نہ بنا سکیں گے۔

اعتراض ۳۹: ہمارے ہاں ایک غیر مقلد وہابی مولوی نے بجو کو حلال قرار دیا ہے اور اس سلسلہ میں مشکوٰۃ سے دو حدیثیں پیش کی ہیں۔ اور جس حدیث سے بجو کی حرمت ثابت ہوتی ہے اسے سنداً کمزور اور مجروح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت میں عبد الکریم وغیرہ استاد شاگرد ضعیف ہیں۔ نیز اس نے کہا ہے جو حنفی

Marfat.com

بجو کو حلال نہ سمجھے وہ منکرِ حدیث ہوگا اور منکرِ حدیث منکرِ رسول ہوگا اس کے متعلق صحیح تحقیق سے آگاہ فرمائیں ۱۲۔

السائل رحمت علی امام مسجد اہل سنت وجماعت چھینہ ضلع شیخوپورہ۔

جواب: کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ صرف ایک حدیث سے نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے لیے اس سلسلہ میں وارد ہونے والی تمام حدیثوں کو غور وخوض کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ غیر مقلد وہابی کو بجو کی اباحت سے متعلق مشکوٰۃ ص۳۶۲ والی روایت تو نظر آگئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جن میں بجو اور اس جیسے دیگر تمام ذی ناب درندوں کی حرمت کو بیان فرمایا گیا ہے نظر نہیں آئیں حالانکہ وہ حدیثیں بھی مشکوٰۃ شریف میں موجود ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَاَکْلُہٗ حَرَامٌ جتنے بھی ذی ناب درندے ہیں ان میں سے ہر ایک کا کھانا حرام ہے۔ اسی صفحہ پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔ نَھٰی رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَنْ کُلِّ ذِیْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ذی ناب درندے سے منع فرمایا ہے یہ دونوں حدیثیں مشکوٰۃ شریف ص۳۵۹ میں اور مسلم شریف ص۱۴۷ جلد۲ میں موجود ہیں ان سے صراحۃً معلوم ہوا کہ ہر ذی ناب درندہ حرام ہے اور بجو بھی چونکہ ذی ناب درندہ ہے لہٰذا اسے بھی باقی ذی ناب درندوں کی طرح حرام ہی سمجھا جائے گا۔ یہی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور اسی پر آپ کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں اولیاء علماء فقہاء صدیوں سے عامل ہیں۔

بروز محشر سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو آزر سے متنفر کرنے کے لیے آزر کو بجو بنا دیا جائے گا (مشکوٰۃ ص۴۸۳) نیز بجو انسان کا بدترین دشمن ہے زندہ انسان

Marfat.com

کا خون پینے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور مردہ انسان کی قبر کھود کر لاش نکال کر بے حرمتی کرتا رہتا ہے (حیٰوۃ الحیوان ج ۲ ص ۸۲) پتہ چلا کہ یہ ایک خبیث شے ہے اور قرآن مجید نے خبائث کو حرام قرار دیا ہے "یُحَرِّمُ عَلَیْھِمُ الْخَبٰٓئِثَ" الاعراف ع ۱۹)

حدیث اباحت کا جواب پھر چونکہ اصل اشیاء میں اباحت ہے اس لیے ابتداءً بجو مباح تھا بعد میں حرام ہوا جس طرح کہ شراب ابتداء اسلام میں مباح تھی بعد میں حرام فرمائی گئی۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حَرَّمَ یَوْمَ خَیْبَرَ کُلَّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ خیبر کے دن ہر ذی ناب درندے کو حرام قرار دیا تھا۔ (ترمذی ج ۱ ص ۱۷۳ مثلہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی ابن ماجہ ج ۲ ص ۲۴۰)

معلوم ہوا یوم خیبر سے پہلے سب ذی ناب درندے حرام نہ تھے بعد میں حرام ہوئے لہٰذا وہ روایت جس میں بجو کی اباحت کا ذکر ہے یوم خیبر سے پہلے پر محمول کی جائے گی اور حرمت والی سب حدیثوں کو بعد پر محمول کیا جائے گا۔ ایسا کرنے سے سب حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے اور تعارض بین الاحادیث کا وہم پیدا نہیں ہوتا۔

غیر مقلد وہابی کی مغالطہ دہی کا رد۔ بجو کی حرمت سے متعلق وہ حدیث جس کی سند میں اسماعیل و عبدالکریم آتے ہیں کی سند کا قوی نہ ہونا ہمارے لیے مضر نہیں کیونکہ جب اوپر ذکر کردہ صحیح المتن قوی الاسناد حدیثوں سے بجو کی حرمت ثابت ہو چکی ہے تو کسی ایک سند کا کمزور ہونا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بناءً علیہ امام ترمذی علیہ الرحمت نے متنِ حدیث پر اعتراض نہیں کیا بلکہ صرف سند کے متعلق کہا ہے کہ لَیْسَ اِسْنَادُہٗ بِالْقَوِیِّ (ترمذی ج ۱ ص ۱) اور علم حدیث و اصولِ حدیث سے واقفیت رکھنے والوں پر ظاہر ہے کہ سند کی عدم قوت متن کے ضعف کو مستلزم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے پھر اگر اس سے صحبت کرکے طلاق دے تو اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ورنہ اس کی بیٹی کو نکاح میں لا سکتا ہے اور اگر بیوی کی ماں سے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اگرچہ بیوی

Marfat.com

کو بغیر صحبت کے ہی طلاق دے دی ہو۔ اس حدیث کو ترمذی نے " لَا یَصِحُّ مِنْ قِبَلِ اِسْنَادِہٖ " کہا ہے (ترمذی ج ۱ ص ۱۳۳ مشکوٰۃ ص ۲۸۵) حالانکہ اس حدیث کا متن و مضمون اتنا صحیح ہے کہ چوتھے پارے کی آخری آیت کے بالکل مطابق ہے۔

قفال مروزی اور محمود غزنوی: سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے اور آپ کے مذہب مہذب پر اعتراض کرنے کے لیے درج ذیل مردود حکایت کئی وہابیوں نے الٹے سیدھے ترجمے کے ساتھ شائع کی۔ اس وقت ہمارے سامنے ہفت روزہ الاسلام لاہور ہے اور ایک چھوٹی سی رسلیہ۔ ہفت روزہ میں پسرور کے ایک وہابی نے اور رسلیہ میں فیصل آباد جناح کالونی دار القرآن و الحدیث سے متعلق ایک دوسرے وہابی نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ پہلے ان کا اعتراض سنو پھر جواب۔

اعتراض نمبر ۴: "سلطان محمود غزنوی حنفی المسلک تھے اور علم حدیث کے حریص تھے۔ اسی سلسلہ میں علماء و مشائخ سے احادیث سنا کرتے تھے۔ پس اکثر حدیثوں کو سلطان نے شافعی مسلک پر پایا۔ اس نے علماء سے مطالبہ کیا کہ دونوں مسلکوں میں جو بہتر ہے مجھے اس سے آگاہ کیا جائے تو سب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ دو دو رکعتیں دونوں مسالک کے مطابق پڑھنی چاہیئے۔ پس قفال مروزی نے پہلے امام شافعی کے مسلک پر پڑھی۔ جو احادیث کے مطابق تھی۔ اس کے بعد حنفی نماز کی باری آئی تو قفال نے بغیر نیت کے الٹا وضو کیا پانی کی جگہ نبیذ تمر کو استعمال کیا چونکہ موسم (صمیم الصیف) سخت گرمی کا تھا اس لیے اس کے جسم پر بے شمار مکھیاں اور مچھر جمع ہو گئے۔ پھر اس نے کتے کی دباغت شدہ کھال پہن لی اور اس کے ایک حصہ کو نجاست سے تر کر کے نماز شروع کی۔ تکبیر کی جگہ خدائے بزرگ کہا اور قرأت کی جگہ دو برگ سبز کہا (ترجمہ مدھامتان) اور بجائے سجود کے مرغ کی طرح دو ٹھونگے مارے اور سلام کی جگہ گوز مار دیا۔ پھر کہا اے بادشاہ (ھٰذِہٖ صَلٰوۃُ اَبِیْ حَنِیْفَۃَ) یہ ہے حنفی نماز۔ بادشاہ نے ایک نصرانی کو ثالث مقرر کیا اس نصرانی نے قفال کی تصدیق

Marfat.com

کی۔ یہ حقیقت دیکھ کر محمود غزنوی حنفیت ترک کر کے امام شافعی والے مسلک پر کاربند ہو گیا (حیاۃ الحیوان ج ۲ ص ۲۵۹)

جواب: امام الائمہ کاشف الغمۃ سیدنا الامام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ آپ کے اور آپ کے مذہب مہذب کے خلاف گھڑی ہوئی یہ رام کہانی اپنے منگھڑت و جھوٹا ہونے پر خود ہی کئی وجوہ سے دلالت کرتی ہے۔

اوّلاً: ابن کثیر نے "قفال مروزی" کے متعلق لکھا ہے کہ وہ پہلے اقفال یعنی تالے بنایا کرتے تھے پھر پڑھائی کی طرف مائل ہوئے تو علم و زہد میں حفظ و تصنیف میں وہ "مذہب شافعی" کے اکابر اماموں میں شمار کئے گئے۔ اور "طریقہ خراسانیہ" کے منسوب الیہ قرار پائے (البدایۃ والنہایہ ج ۲ ص ۲۲-۲) تو جو شخص شافعی المذہب ہو اور اتنی بڑی عالی صفات سے موصوف ہو وہ اماموں کے امام فقیہوں کے استاذ محدثوں کے مقتداء مفسروں کے راہنما حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانِ اقدس میں گستاخی نہیں بک سکتا بلکہ تعریف و توصیف ہی کرے گا۔ کیونکہ شوافع کے امام سیدنا محمد بن ادریس الشافعی امام اعظم کی تعریف میں خود فرماتے ہیں (۱) اَلنَّاسُ عِیَالٌ عَلٰی اَبِیْ حَنِیْفَةَ فِی الْفِقْهِ۔ فقہاء و مجتہدین سب کے سب فقہ میں امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔

(۲) مَنْ اَرَادَ اَنْ یَّتَبَحَّرَ فِی الْفِقْهِ فَهُوَ عِیَالٌ عَلٰی اَبِیْ حَنِیْفَةَ جو شخص فقہ و اجتہاد میں متبحر بننا چاہے اسے امام ابو حنیفہ سے بچوں کی طرح پرورش پانی چاہیئے (تبییض الصحیفہ ص ۱۹)

امام عبدالوہاب الشعرانی: شافعی المذہب ہونے کے باوجود "المیزان الکبریٰ" میں رقمطراز ہیں کہ (۱) امام ابو حنیفہ کا کوئی قول قرآن و حدیث کے مخالف نہیں (ج ۱ ص ۶۴) (۲) وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہم اس کا جواب قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں نہ ملے تو حدیث شریف میں تلاش کرتے ہیں نہ ملے تو صحابہ کرام کے فیصلوں میں تلاش کرتے ہیں نہ ملے تو مسئلہ "منطوق بہا" پر مسئلہ "مسکوت عنہا" کو قیاس

Marfat.com

کرتے ہیں بشرطیکہ دونوں کی علت ایک ہو (ص ۶۵ ج ۱) (۳) اندریں حالات قیاس کرنا امام ابو حنیفہ کے ساتھ مختص نہیں دیگر فقہاء بھی ان کے مضائق میں قیاس کیا کرتے ہیں (ج ۶۶) (۴) امام شافعی اور امام مالک کے مقلدین اگر انصاف کریں تو وہ امام ابو حنیفہ کے کسی قول کی تضعیف نہیں کر سکتے (ص ۶۳) (۵) ہم نے امام ابو حنیفہ کی مسانید کا مطالعہ کیا ان کی روایت کردہ ہر حدیث کو صحیح پایا (ج ۱ ص) (۶) امام ابو حنیفہ کی یہ عادت تھی کہ جو مسئلہ کتاب و سنت سے مستنبط فرماتے پہلے اسے اپنے معاصر علماء پر پیش کرتے جب سب علماء متفق ہو جاتے تو اس کے لکھنے کا حکم دیتے (ج ۱ ص ۵۹) (۷) بلکہ ان کو نیز دیگر مجتہدین کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حضوری حاصل تھی جب کوئی مسئلہ استنباط فرماتے تو روحانی طور پر بارگاہ اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے کہ یا رسول اللہ ہم نے فلاں آیت یا فلاں حدیث سے یہ مسئلہ سمجھا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ (ج ۱ ص ۴۲) (۸) میرے مرشد گرامی حضرت علی الخواص کے رو برو ایک دفعہ ایک شخص نے کہا "فی هٰذا الحدیث ردٌّ علی ابی حنیفه" اس حدیث میں ابو حنیفہ کا رد ہے۔ یہ گستاخانہ فقرہ سنتے ہی فرمایا قَطَعَ اللّٰهُ لِسَانَكَ اللہ تیری زبان کاٹے۔ تو امام ابو حنیفہ کی بے ادبی کرتا ہے (ج ۱ ص ۶۳) (۹) ایک بے ادب نے میرے سامنے امام ابو حنیفہ کے تلامذہ کی شان میں گستاخی کی۔ میں نے روکا پر نہ رکا اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں یہ سزا دی کہ سیڑھی کے اوپر سے ایسا گرایا کہ ہڈی ٹوٹ گئی اس نے چاہا کہ میں اس کی عیادت کو جاؤں مگر اس کے بے ادب ہونے کی وجہ سے نہ گیا بالآخر وہ اس بری حالت میں مر گیا (ج ۱ ص ۶۵) (۱۰) امام فخر الدین رازی (مثلاً القفال المروزی) امام ابو حنیفہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے استاذ کے سامنے کوئی شاگرد یا سلطان اعظم کے سامنے کوئی فرد رعیت یا سورج کے سامنے کوئی تارا (ص ۶۴)

صاحبِ مشکوٰۃ: شافعی المذہب تھے مگر اپنے رسالہ "الاکمال فی اسماء الرجال" ملحقہ بمشکوٰۃ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہترین

Marfat.com

الفاظ میں ہدیہ ہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ اَلْغَرْضُ بِاِیْرَادِ ذِکْرِہٖ فِیْ ھٰذَا الْکِتَابِ لِلتَّبَرُّکِ بِہٖ۔ اس جگہ امام ابوحنیفہ کا تذکرہ صرف حصولِ برکت کے لیے کیا گیا ہے (ص ۶۲۵)

ثانیاً: جس وضو اور جس نماز کی نسبت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر کے کہا گیا ہے کہ "ھٰذِہٖ صَلٰوۃُ اَبِیْ حَنِیْفَۃَ" اس وضو اور اس نماز سے حضرت امام کی پوری زندگی ناآشنا ہے آپ نے نہ کبھی ایسا وضو کیا نہ کرنے کا حکم دیا نہ کبھی ایسی نماز پڑھی نہ پڑھنے کا امر فرمایا۔ آپ کی سیرت پر متعدد کتب شافعی المذہب حضرات نے بھی لکھی ہیں لیکن ایسے وضو اور ایسی نماز کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ بلکہ اس کے برعکس تحریر فرماتے ہیں کہ

۱: امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس سال تک مسلسل شب بیداری فرمائی اور عشاء کے وضو سے نمازِ صبح پڑھی (تبییض الصحیفہ ص ۱۹ الخیرات الحسان مترجم ص ۸۱)

۲: نمازیں بھی اور تلاوت قرآن مجید کے وقت بھی آپ پر رقت طاری ہوا کرتی کہ دیر تک رویا کرتے (تبییض ص ۱۹)

۳: ایک دفعہ ایک نماز پڑھانے والے نے یہ آیت پڑھی (ترجمہ) ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے (ابراہیم ع ۷ آیت ۱) تو حضرت امام کا سارا بدن خوفِ خدا سے کانپنے لگا (الخیرات ص ۸۹)

۴: یونہی ایک دفعہ نماز عشاء میں سورۃ "اِذَا زُلْزِلَتِ" کی تلاوت سن کر شب بھر ٹھنڈی سانسیں بھرتے رہے اور اس کی آخری آیتوں کا مضمون دہرا دہرا کر دعا کرتے رہے کہ "اے وہ جو ذرہ بھر نیکی کی جزاء اور ذرہ بھر بدی کی سزا دے گا اپنے بندے نعمان کو آگ سے بچا۔ (تبییض الصحیفہ ص ۳۶۔ الخیرات ص ۸۸)

ثالثاً: حنفی مذہب پر آج تک ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں مختلف زبانوں میں چھوٹی بڑی لکھی جا چکی ہیں لیکن کسی کتاب میں ایسا وضو کرنے اور ایسی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ملتا بلکہ

Marfat.com

اس وضو اور اس نماز کو نہ کسی حنفی نے فرض کہا ہے نہ واجب نہ سُنّت نہ مستحب۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو کسی معتبر کتاب کے حوالہ سے ثابت کریں۔ اور انعام پائیں ورنہ جھوٹے لوگ ہر روز سب مل کر ۹۹۹۹ مرتبہ "لَعْنَةُ اللّٰہِ عَلَی الْکَاذِبِیْنَ" پڑھ کر اپنے پر دم کر لیا کریں۔

رابعاً: اگر اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو اس وقت کے اکابر علماء احناف دوسرے فریق کو ہرگز معاف نہ کرتے بلکہ شاہی دربار میں اس کی خوب مرمت فرماتے کہ "اے ادقفال" جب تو نے مذہب شافعی کے مطابق وضو کرتے اور نماز پڑھتے وقت سنن و مستحبات کا التزام اور مکروہات سے اجتناب کیا ہے تو مذہب حنفی کا نقشہ پیش کرتے وقت اس التزام و اجتناب سے کیوں گریز کیا؟ یہاں سنن و مستحبات پر کیوں عمل نہ کیا اور مکروہات کو کیوں نہ چھوڑا؟ پرے ہٹ! ہم اپنے مذہب مہذب کے مطابق وضو کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس صورت میں سب کی آنکھیں کھل جاتیں اور ظاہر ہو جاتا کہ حنفی مذہب سب سے اعلیٰ سب سے ستھرا سب سے احوط اور سب سے ازکی ہے کیونکہ

"**حنفی وضو:** میں چار فرض ۱۶ سنتیں تقریباً ۲۰ مستحبات اور ۲۰ مکروہات ہیں اور "حنفی نماز" میں شروط صحت کے علاوہ، فرض ۴۹ واجب ۹، سنتیں ۱۵ مستحبات ۳۴ مکروہاتِ تحریمیہ اور ۶۰ مکروہات تنزیہیہ ہیں۔

(بہار شریعت ص۱۱ تا ۱۸ ج ۲ ص ۳۲ تا ۱۴۲ ج ۳)

ان سب کی رعائت کی جائے تو وضو سب سے بہتر اور نماز سب سے خوب تر ہو جاتی ہے اس سے اعلیٰ نہ وضو متصور ہو سکتا ہے نہ نماز۔ (لہ الحمد والمنة کہ ہم اسی مذہب کے پیروکار ہیں) وضو کرتے وقت نیت کرنا۔ بسم اللہ شریف پڑھنا جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے (سورۃ المائدہ ع۲ میں) مغسول و ممسوح اعضاء کا ذکر فرمایا ہے اس ترتیب کے ساتھ اعضاء دھونا مسح کرنا۔ بوقت مضمضہ و استنشاق پہلے منہ

Marfat.com

یں پھر ناک میں پانی ڈالنا۔ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا۔ یہ سب امور عندالاحناف وضو میں سُنّت ہیں اور ان کا ترک مکروہ ہے۔ (بہار شریعت ج ۲ ص ۱۹) قصہ مذکورہ میں مستحبات کے ترک کے علاوہ ان سنتوں کو چھوڑ کر متعدد مکروہات کا ارتکاب کیا گیا ہے اسے "حنفی وضو"، کا نقشہ نہیں کہا جا سکتا۔

حنفی نماز: میں سورۂ فاتحہ کی سات آیات میں سے ہر ایک کا پڑھنا، پھر ایک چھوٹی سورۃ یا تین چھوٹی آیتیں یا ان کے برابر ایک بڑی آیت متصلاً پڑھنا۔ رکوع، قومہ، جلسہ اور ہر سجدہ میں اس قدر ٹھہرنا کہ تمام اعضاء اپنی جگہ قرار پکڑ لیں۔ آخری تشہد پڑھ کر دو بار سلام کہنا، یہ سب امور نماز میں واجب ہیں۔ قصۂ مذکورہ میں سنن ومستحبات کے ترک کے علاوہ ان واجبات کو چھوڑ کر ایسی نماز پڑھی گئی ہے جس کا دوبارہ پڑھنا عندالاحناف واجب ہے نہ صرف واجب بلکہ فرض ہے کیونکہ اس چھوٹی کہانی میں حنفی نماز کا نقشہ مفروضہ نیتِ نماز سے بھی خالی ہے اور رکوع سے بھی۔ حالانکہ عندالاحناف نیت شرط ہے اور رکوع فرض ورکن۔ شرط وفرض کے بغیر نماز ہرگز نہیں ہوتی۔ تو اس نماز کو حنفی نماز قرار دینا کسی طرح درست ہو سکتا ہے؟ حنفی مذہب پر بہتان تراشی کی اس سے بدتر کیا مثال ہوگی؟ کیا مخالفین کے مذہب میں بہتان تراشی کے سوا کچھ نہیں؟ ؎

تن کے اجلو من کے کالو کیا یہی اسلام ہے؟

مخالفین کے دامِ تزویر میں پھنسنے والے عوام بیچاروں نے بارہا ہم حنفیوں کو وضو کرتے اور نماز پڑھتے دیکھا ہوگا۔ کیا کسی نے کسی حنفی کو ایسا وضو کرتے اور ایسی نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کیا مخالفین کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ منگھڑت کہانی کافی نہیں؟

(۵) مسئلہ دباغت: حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (۱) دِبَاغُ الْاَدِیْمِ طَھُوْرُہٗ۔ (۲) دِبَاغُ جُلُوْدِ الْمَیْتَۃِ طَھُوْرُھَا (۳) دِبَاغُ کُلِّ اِھَابٍ طَھُوْرُہٗ۔ (۴) زَکٰوۃُ الْمَیْتَۃِ دِبَاغُھَا (۵) زَکٰوۃُ کُلِّ مَسْکٍ دِبَاغُہٗ (الجامع الصغیر ج ۲ ص ۱۴-۱۹) (۶) دِبَاغُ

Marfat.com

الْمَیْتِ وَزَکوٰتُہٗ طُھُوْرُہٗ (کنوز الحقائق علی ہامشہ ص۱۲۹ ج۱) (۷) اِذَا دُبِغَ الْاِھَابُ فَقَدْ طَھُرَ (۸) اَمَرَ اَنْ یُّسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَیْتَۃِ اِذَا دُبِغَتْ (مشکوٰۃ ص۵۲-۵۱)

یہ آٹھ حدیثیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ مردار جانور کے چمڑا کی دباغت کی جائے تو چمڑا پاک ہو جاتا ہے ماکول اللحم جانور کا ہو یا غیر ماکول کا۔ اور قرآن مجید میں خنزیر کو چونکہ نجس العین قرار دیا گیا ہے (الانعام ۱۴۵) بنابریں قرآن و حدیث میں فرق مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے حنفی علماء خنزیر کو حکم بالا سے مستثنیٰ کر کے فرماتے ہیں کہ اس کا چمڑا دباغت سے پاک نہ ہوگا۔ اور کتا چونکہ خنزیر کی طرح نجس العین نہیں اس سے شکار کرنا بھی جائز ہے اور مویشی کی حفاظت بھی اس لیئے اسے احادیث مبارکہ کے حکم سے مستثنیٰ نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کا چمڑا بھی دیگر حرام مردار جانوروں کے چمڑوں کی طرح دباغت سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن حنفی مذہب کی کتب قدیمہ یا جدیدہ کسی میں یہ فتویٰ درج نہیں کہ بوقت نماز کپڑے اتار لیے جائیں اور کتے کی دباغت شدہ کھال پہن لی جائے۔ قصہ مفروضہ میں ذکر کردہ نماز کسی مسخرے نقال کی نماز تو ہو سکتی ہے حنفی نماز نہیں۔ البتہ حنفی علماء یہ فتویٰ ضرور دیں گے کہ اگر کسی کے پاس کپڑے بالکل نہ ہوں۔ صرف کتے کی دباغت شدہ کھال ہو تو وہ ننگا ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ اس کھال سے ستر چھپا کر پڑھے۔ کیا "نقال" مذہب شافعی کے مطابق نماز پڑھنے کے بعد ننگا کر دیا گیا تھا کہ اسے کھال کی ضرورت پیش آئی؟

(۶) نبیذ تمر: سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جس رات جن حاضر ہوئے اس رات مجھ سے پوچھا "مَا فِیْ اِدَاوَتِکَ" تیرے برتن میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ برتن میں نبیذ ہے۔ فرمایا تَمْرَۃٌ طَیِّبَۃٌ وَّمَاءٌ طَھُوْرٌ۔ کھجور پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا۔ زَادَ فِی الْمَصَابِیْحِ وَتَوَضَّاَ مِنْہُ" پھر آپ نے اس نبیذ سے وضو فرمایا (مشکوٰۃ ص۵۱ مع الحاشیہ ۹ ترمذی ص۱۳ ج۱) اس حدیث کے پیش نظر حنفی علماء فرماتے ہیں کہ بحالت

Marfat.com

سفر اگر نماز کا وقت آجائے اور صاف ستھرا پانی میسر نہ ہو صرف "نبیذ تمر" ہو یعنی وہ پانی موجود ہو جس میں چند کھجوریں ڈال دی گئی تھیں تو اگر کھجوریں تا ہنوز اچھی طرح نہیں گھلیں اور پانی کی رقت و سیلان میں فرق نہیں آیا دگاڑھا نہیں ہوا، تو بجائے تیمم کے اس پانی سے وضو کرے (ردالمحتار ص ۱۵۲ ج ۱) "فرضی نقال" نے جب بمطابق مذہب شافعی وضو کر لیا تھا۔ تو اس وضو سے حنفی نماز بھی پڑھ سکتا تھا نئے وضو کی کیا ضرورت تھی؟ نیز جب وہاں صاف ستھرا پانی موجود تھا تو اس کی موجودگی میں حنفی علماء نبیذ سے وضو کرنے کی کب اجازت دیتے ہیں؟

مسئلہ ستر (۷): حنفی مذہب کی کسی کتاب میں کسی امام نے یہ نہیں لکھا کہ پاک کپڑوں کو نماز پڑھتے وقت نجاست آلود کر لیا جائے (معاذ اللہ) یہ کسی بہت بڑے جھوٹے، بہت بڑے نقال، بہت بڑے مسخرے، اور بہت بڑے مفتری نے ہم پر افترا باندھا ہے۔ بلکہ حنفی علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بالکل برہنہ ہو اسے پاک کپڑوں کی بجائے ایسا پلید کپڑا کہیں سے دستیاب ہو جائے جس کی صرف ایک چوتھائی پاک ہے تو وہ برہنہ نماز پڑھنے کی بجائے کپڑا پہن کر پڑھے (ردالمحتار ص ۲۷۶ ج ۱ بہار شریعت ص ۳۸ ج ۲)

مُدْهَامَّتَانِ (۸): کا ترجمہ (دو برگ سبز) جو منگھڑت حکایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ عالمانہ نہیں جاہلانہ ہے۔ کیونکہ "مُدْهَامَّتَانِ" تثنیہ ہے اس کا مفرد مُدْهَامَّةٌ اور مصدر "اِدْهِيمَامٌ" ہے مصدر کا ترجمہ "سیاہ شدن ہے"۔ کہا جاتا ہے اِدْهَامَّ الشَّيْءُ اِدْهِيمَامًا اِذَا اسْوَدَّ اور مُدْهَامَّةٌ اس باغ کو کہتے ہیں جو بسبب سخت سبز ہونے کے مائل بسیاہی ہو (قاموس ص ۱۸۱) تو مُدْهَامَّتَانِ کا ترجمہ "دو برگ سبز" نہیں بلکہ یہ ہے "دو جنتیں جو اس قدر سبز ہیں کہ سیاہی کی جھلک دیتی ہیں" نیز "مُدْهَامَّتَانِ" کا موصوف "جَنَّتَانِ" قرآن مجید میں صراحتہً مذکور ہے (الرحمٰن ع ۳) تو اپنی طرف سے "وَرَقَتَانِ" مقدر ماننے کی ضرورت نہیں بلکہ "وَرَقَتَانِ"

Marfat.com

کو اس کا موصوف بنانا درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ صرف دو پتے سیاہی کی جھلک نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے لاتعداد پتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دو جنتوں کا لاتعداد ہرے پتوں پر مشتمل ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے۔

(کما ھو مصرح فی الاحادیث النبویۃ صلی اللہ تعالیٰ علی صاحبہا)

عجمی نماز: (۹) جو شخص عربی پر قادر ہو اس کا غیر عربی میں نماز کے اندر قرآن مجید پڑھنا عند الامام الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرجوع عنہ ہے اور ناجائز (توضیح تلویح ص۹، نسائی ص۳۲۵ ج۱ ہدایہ ص۱۰۲ ج۱) تو جس قول سے رجوع فرما لیا گیا ہو اُسے نشانۂ اعتراض بنانا اور "دو برگ سبز" کہنے کو کافی سمجھنا اور درست جاننا جہالت و حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جس طرح نص منسوخ پر کوئی ذی ہوش تنقید نہیں کر سکتا یونہی مجتہدین کے اقوال مرجوع عنہا پر کوئی عقلمند معترض نہیں ہو سکتا۔ خدا معلوم "فرضی نقال" کے اس ناپاک ڈرامے کو ترتیب دینے والے عقل و خرد سے کیوں محروم کر دیئے گئے ہیں۔

نیّتِ وضو: (۱۰) نیتِ وضو کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہوتے کہ اگر آواز بلند پڑھے جائیں تو وضو با نیت ہوگا ورنہ بے نیت۔ بلکہ دل سے وضو کا قصد کرنے کا نام نیت ہے۔ اور وضو بے نیت کی صورتیں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کوئی شخص نہر کے یا تالاب کے کنارے کھڑا ہو یا جا رہا ہو اور اچانک پانی میں گر پڑے یا کوئی دوسرا اسے دھکا دے کر پانی میں گرا دے یا کوئی شخص تیز بارش میں گھر جائے اور اس کے جملہ اعضائے وضو پر پانی بہہ پڑے یا صرف تبرید اعضاء یا صرف ازالۂ اوساخ کے لیے پانی بہائے یا مل مل کر دھوئے تو اس کے وضو کو وضوء بے نیت کہیں گے لیکن جب کوئی شخص وضو کے لیے پانی منگائے یا خود برتن میں ڈالے یا وضو ہی کے لیے لوٹا پکڑلے یا ٹونٹی کھولے تو اس کے وضو کو وضوء بے نیت نہ کہیں گے۔ فرضی حکایت میں فرضی نقال

Marfat.com

کے جس وضو (بالنبیذ) کا ذکر کیا گیا ہے وہ وضوے بے نیت نہیں ہو سکتا کیونکہ جب اس نے خود نبیذ منگایا اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنی عادت اور تمام مسلمانوں کی عادت کے خلاف سنن و مستحبات کو چھوڑتے اور مکروہات کے مرتکب ہوتے ہوئے الٹا وضو کیا تو اس کے وضو کو وضوے بے نیت کہنا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر وہاں نبیذ کا کوئی تالاب ہوتا اس میں اس لقال کو کوئی مسخرا ساحرا اچانک پھینک دیتا اور اپنے سحر کے ذریعہ پہلے اس کا صرف بایاں پاؤں ڈوبنے دیتا پھر دایاں پھر صرف بایاں ہاتھ ڈوبنے دیتا پھر دایاں پھر صرف منہ کا بایاں رخسار ڈوبنے دیتا پھر دایاں پھر صرف ناک میں نبیذ چڑھنے دیتا پھر منہ میں پھر سر کی الٹی طرف خود ہی ہاتھ سے مسح ہونے لگتا تو اس وضو کو الٹا بھی اور بے نیت بھی کہہ سکتے تھے لیکن یہاں یہ صورت پیش نہ آئی تو اس وضو کا بے نیت ہونا باطل ٹھہرا۔ معلوم ہوا کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن عقل کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

مسئلہ تشہد: حدیث میں ہے جب کوئی شخص نماز کے اخیر بمقدار تشہد بیٹھ کر سلام پھیرنے سے پہلے وضو توڑ دے (فقد جازت صلوتہ) تو اس کی نماز جائز ہو گئی۔ مشکوٰۃ ص۹۲۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا تحریمہا (الصلوۃ) التکبیر و تحلیلہا التسلیم۔ تکبیر کہنا نماز میں داخل ہونا ہے اور سلام پھیرنا نماز سے نکلنا ہے (ابو داؤد ص۹۱ ج ۱۔ ترمذی ص۳ ج ۱) پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض صورتوں میں سلام پھیرنے کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اور دوسری حدیث سے پتہ چلا کہ سلام پھیرنا ضروری ہے۔ دوسری حدیث بنسبت پہلی حدیث کے قوی ہے (ترمذی ص۳۲ ج ۱)

اور اسی قوی روایت کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ہمیشہ عمل فرمایا اور اپنے عمل سے اسے قوی تر بنایا۔ اور پہلی کے متعلق مشکوٰۃ میں بحوالہ ترمذی مذکور ہے کہ اس کی سند قوی نہیں باعتبار سند کے مضطرب ہے۔ سند کی بنا پر مضطرب کہنے اور سند ہی کی بنا پر کمزور بتانے سے پتہ چلا کہ پہلی حدیث متن و مضمون

Marfat.com

کے لحاظ سے نہ مضطرب ہے نہ کمزور۔ بلکہ امام طحاوی نے اس کی متعدد سندیں ذکر فرمائی ہیں جن سے ثابت ہوا کہ یہ حدیث اپنی متعدد سندوں کی وجہ سے ضعیف نہیں "حسن" ہے (طحاوی ج۱ ص۱۶۲ مرقاۃ ج۱ ص۳۵۱) اور چونکہ حدیث "حسن" بھی احتجاج کے لائق ہوتی ہے اس لیے پہلی حدیث کو محض بیکار اور نری باطل نہیں کہہ سکتے بلکہ دونوں میں حسب قواعد محدثین تطبیق دیں گے۔ حنفی علماء ان میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث کے پیش نظر دونوں طرف سلام پھیرنا واجب ہے۔ جس نے سلام نہ پھیرا اور سلام کے بغیر وضو توڑ دیا اس نے دو واجب ترک کئے اس پر اس نماز کا اعادہ واجب و ضروری ہے۔ اور پہلی حدیث کے جملہ (جَازَتْ صَلٰوتُہٗ) کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نماز بالکل بلا کراہت و بلا گناہ جائز ہوگئی بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس نے سلام نہ پھیرا اور نماز کے اخیر پہنچ کر وضو توڑ دیا تو اس کی نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوئی ہے اور جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے (ردالمحتار ج۱ ص۳۰۲) لہٰذا دونوں حدیثوں میں تعارض نہ رہا اور دونوں میں من حیث المفہوم اتحاد ہو گیا۔ حنفی علماء نے کسی کتاب میں یہ حکم نہیں دیا کہ سلام نہ پھیرا کرو اور اس کی جگہ وضو توڑ دیا کرو۔ یہ عظیم بہتان ہے جس سے صرف شیطان کو خوش کیا گیا ہے نیز یہ اعتراض بظاہر علمائے احناف پر ہے اور دراصل حدیث شریف پر ہے کیونکہ علماء نے حدیث ہی کی وضاحت فرمائی ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ جزاھم اللہ خیر الجزا۔

نوٹ: پیٹ کی ہوا آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ جب چاہا دھماکہ کر دیا اور جب چاہا بے آواز نکال دی۔ خصوصاً زاہدین کرام کہ ان کے پیٹ اس بدبو کے ذخیرے سے پاک ہوتے ہیں نہ زیادہ کھاتے ہیں۔ نہ ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے۔ جب قفال مروزی کا زاہد ہونا بحوالہ ابن کثیر گزر چکا ہے تو پھر ضراط در صلوٰۃ کو ان کی ذات کی طرف منسوب کرنا جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔

فقہی عبارات: صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے صرف عربی دان ہونا کافی نہیں۔ بلکہ اصطلاحات

Marfat.com

فقہاء سے واقف ہونا بھی ضروری ہے ایک شخص نے سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذاتِ اقدس پر اعتراضات کیے اور اعتراض نامہ محقق مذاہب اربعہ سیدی عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا۔ مِثْلُكَ يَفْهَمُ كَلَامَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَرُدَّ عَلَيْهِ۔ تجھ جیسا حضرت امام کا کلام سمجھ سکتا ہے؟ کہ ان پر اعتراض کرے۔

(المیزان ص۶۴) جب اصطلاحات سے ناواقف شخص مسلمان ہونے کے باوجود کلام امام نہ سمجھ سکا تو مردود نصرانی کی عقلِ نارسا اور فہم ناقص کی کیا مجال کہ حضرت امام کے عرشِ تحقیق تک پہنچ سکے اور صحیح مسئلہ سمجھ کر دوسروں کو سمجھا سکے۔ نیز نصرانی کافر ہے اور بحکم قرآن مجید "الضالین" میں داخل اور "قَاتَلَهُمُ اللّٰه" کا مصداق ہے تو یہ کیسے مانا جائے کہ احناف و شوافع کے مقتدر علماء نے اس کافر کو ثالث تسلیم کرلیا تھا۔ اگر کوئی ایسا قصہ پیش آیا ہوتا تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ثالث بنایا جاتا جن سے بادشاہ کو بڑی عقیدت تھی اور جن کے مقدس پیراہن کی برکت و وسیلہ سے سومنات فتح ہوا تھا حالانکہ شاہی فوج بالکل بے بس ہو چکی تھی (تذکرہ مشائخ نقشبندیہ ص۶۰)

کذب بیانی: صمیم الصیف کے معنے شدید گرمی کے ہیں۔ (قاموس ص۸۳۶) جبکہ گرم لو سے مچھر بھی مر جاتے ہیں اور مکھیاں بھی۔ اور "حیوٰۃ الحیوان" میں لکھا ہے کہ جس موسم میں یہ دونوں موجود ہوں اس وقت مکھیاں مٹھاس پر صرف دن کو جمع ہوتی ہیں رات کو نہیں اور مچھر صرف رات کو دھاوا بولتے ہیں دن کو نہیں (ص۳۵۵-۲۹۶ ج۱) نیز تلاوت بالجہر صرف رات کی نمازوں میں ہوتی ہے دن کی نمازوں میں نہیں۔ تو قصۂ مذکور میں ان چاروں (۱۔ شدید گرمی۔ ۲۔ مچھر۔ ۳۔ مکھیاں۔ ۴۔ تلاوت بالجہر) کے بیک وقت جمع ہونے کا تذکرہ ہی اس کے جھوٹا ہونے کی واضح دلیل ہے۔

بے ادبی: اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبروں میں سے کسی ایک کا منکر و کافر سب کا منکر و کافر سمجھا جاتا ہے۔ یونہی اولیاء کاملین میں سے کسی ایک کا بے ادب و گستاخ

Marfat.com

سب کا بے ادب و گستاخ قرار پاتا ہے۔ چنانچہ اس فرضی حکایت کے گھڑنے والے نے جب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواسات کیں تو اس نے امام شافعی علیہ الرحمۃ کو بھی معاف نہ کیا۔ ان کی ذاتِ اقدس کی طرف بھی اس بدنصیب نے بہت بڑے گناہ کی نسبت کردی۔ لکھتا ہے کہ "قفال مذکور" مذہب شافعی کے مطابق نماز پڑھتے ہوئے ایسے آداب بجالایا کہ (لا یجوز الشافعی دونہا) ان کے بغیر امام شافعی کے اعتقاد میں نماز جائز نہیں ہوتی۔ حالانکہ آداب نماز کو وہ درجہ ہرگز حاصل نہیں کہ اُن کی بجاآوری کے بغیر نماز ہی درست نہ ہو بلکہ ایسا اعتقاد بجائے خود بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھئے امام کا نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں طرف منہ پھیر کر بیٹھنا آداب میں سے ہے اور حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایسا ہی کیا ہے (مشکوٰۃ ص۸۷) لیکن اسے فرض و واجب جاننا شدید گناہ ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ائمہ مساجد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ لَا یَجْعَلُ اَحَدُکُمْ لِلشَّیْطَانَ شَیْئًا مِنَ الصَّلٰوۃِ یَرٰی اَنَّ حَقًّا عَلَیْہِ اَنْ لَا یَنْصَرِفَ اِلَّا عَنْ یَمِیْنِہٖ۔ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں سے شیطان کو کچھ نہ دے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ نماز سے فارغ ہو کر دائیں طرف منہ پھیر کر بیٹھنا واجب و فرض ہے (مشکوٰۃ ص۸۷) معلوم ہوا کہ ادبِ نماز کو فرض کا درجہ دینا شیطانی کام ہے۔ امام شافعی اس سے محفوظ ہیں مفتری بدنصیب نے ان پر افترا باندھا ہے۔

جھوٹ ہی جھوٹ! قرآن و حدیث نے ہمیشہ سچ بولنے اور جھوٹ چھوڑنے کا حکم دیا ہے کیونکہ جب ایک جھوٹ بولا جائے تو اسے سچ ثابت کرنے کے لیے اور کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں چنانچہ مندرجہ جھوٹی حکایت میں جھوٹوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور کئی طرح کے جھوٹ بولے گئے۔

● ایک رسلیہ میں فیصل آبادی وہابی نے حنفی نماز کے نقشہ میں رکوع کا ذکر کیا ہے حالانکہ اصل عربی عبارت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا ترجمہ رکوع کیا جائے۔

Marfat.com

۲• یونہی اس نے نبیذ تمر کا ترجمہ گاڑھا شربت کیا ہے حالانکہ نہ نبیذ کا یہ ترجمہ ہے۔ نہ اُسے نبیذ مستلزم ہے بلکہ کھجور ملے پتلے پانی پر بھی نبیذ کا اطلاق ہو سکتا ہے نیز عندالاحناف گاڑھے شربت سے وضو جائز نہیں۔ (ردالمحتار ج۱ ص۱۵۲)

۳• هٰذِهٖ صَلٰوةُ اَبِیْ حَنِیْفَةَ کا ترجمہ رسلیہ میں لکھا ہے۔ یہ ہے حنفی مذہب کی کم از کم جائز نماز۔ اور پسروری وہابی لکھتا ہے۔ یہ ہے حنفی نماز۔ یہ دونوں ترجمے غلط ہیں۔ صحیح ترجمہ یہ ہے۔ یہ ابوحنیفہ کی نماز ہے (وہ یونہی پڑھا کرتے تھے) معاذاللہ۔

۴• رسلیہ میں "مذہب الشافعی" کا ترجمہ عمل بالحدیث کیا گیا ہے حالانکہ یہ درست نہیں بلکہ قرآن مجید حدیث شریف اجماع امت اور قیاسِ شرعی سے ثابت شدہ ان مسائل کے مجموعہ کا نام "مذہب الشافعی" ہے جنہیں حضرت امام شافعی نے استنباط فرمایا۔ اور ان کے مقلدین نے ان مسائل میں ان کی تقلید کی۔

۵• پسروری وہابی نے "مَذْهَبُ اَبِیْ حُنِیْفَةَ" کا ترجمہ حنفیت کیا ہے اور "مذہب الشافعی" کا ترجمہ امام شافعی والے مسلک پر کاربند ہونا۔ حالانکہ جب اس نے پہلے لفظ کا ترجمہ حنفیت کیا ہے تو دوسرے کا "شافعیت" کرنا چاہیئے تھا۔ مگر یہ انداز صرف اس لیے بدلا گیا۔ تاکہ پڑھنے والا دھوکا کھائے اور یہ نہ سمجھ سکے کہ سلطان نے بقول ان کے شافعیت اختیار کی تھی۔ جو کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ کی تقلید سے عبارت ہے جسے شرک ثابت کرنے کے لیے اپنے دلوں کی طرح سینکڑوں صفحات کالے کر دیئے گئے اور پھر بھی نامراد رہے۔ ؎

نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

۶• پسروری وہابی نے "قفال" کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے امام شافعی کے وقت پر نماز پڑھی جو احادیث کے مطابق تھی حالانکہ عربی عبارت میں کوئی لفظ ا... کا ترجمہ "احادیث کے مطابق تھی" کیا جائے۔

۱۷) ... یہ مدلور ... ے مسلک ... ملدو کا فر... یسا نہیں جس ... سے کسی ایک

• صاحب حیوۃ الحیوان نے عربی عبارت میں سیدنا امام الاعظم کا نام پہلے اور سیدنا امام الشافعی کا نام بعد میں لکھ کر دونوں کے لیے جملہ دعائیہ رضی اللہ عنہما استعمال کیا ہے تاکہ دونوں سے ان کا حسن اعتقاد ظاہر ہو جائے مگر لسپروری وہابی نے عیاری سے کام لیا ان کی عبارت میں اپنی طرف سے تصرف کیا اور ضمیر تثنیہ "عنہما"، کو ضمیر مفرد "عنہ" سے بدل دیا جس سے کلمہ دعائیہ صرف حضرت امام شافعی سے مختص ہو گیا۔ یہ فریب کاری کی بدترین مثال ہے۔

سوال: جب یہ حکایت اس قدر جھوٹی ہے تو اسے "حیوۃ الحیوان" میں جگہ کیوں دی گئی؟

جواب: مصنف نے اسے اثبات مسئلہ کے لیے ذکر نہیں کیا بلکہ رد کرنے کے لیے ذکر کیا ہے چنانچہ انہوں نے "غَیْرُ مُسْتَقِیْمٍ"، کہہ کر اس مردود حکایت کو نادرست قرار دے دیا ہے مگر مخالفین اپنی بدفہمی کی بنا پر رد کرنے والے کو راوی سمجھ رہے ہیں ؎

راد کو اس کا راوی گائیں

کیا بے پر کی اڑاتے یہ ہیں

کتاب مذکور میں اور بھی کئی جھوٹی کہانیاں ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں اِنَّمَا ذَکَرْتُهٗ لِاُنَبِّهَ عَلٰی اَنَّهٗ لَا یُعْتَقَدُ صِحَّتُهٗ میں نے یہ کہانی اس لیے لکھی تاکہ اس کا رد کر کے تنبیہ کروں کہ اس کی صحت کا اعتقاد نہیں رکھنا چاہیئے۔

(حیاۃ الحیوان ص ۲۶۶)

وہابیوں کی ناکامی: اس منگھڑت حکایت سے وہابی ہفت روزہ نام نہاد "الاسلام" نے ثابت کرنا چاہا کہ وہابی مذہب بھی پرانا ہے مگر اس کا یہ دعویٰ غلط اور غیر ثابت ہے کیونکہ محمود غزنوی علیہ الرحمت حنفی المذہب تھے اور "قفال مروزی"، شافعی المذہب۔ وہ سیدنا امام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے اور یہ سیدنا الامام الشافعی علیہ الرحمت کے۔ نہ وہ غیر مقلد وہابی

Marfat.com

تھے نہ یہ — غیر مقلدیت و وہابیت نے تو متحدہ ہندوستان میں انگریز کے ناپاک وجود کے ساتھ جنم لیا ہے۔ یہاں پر فرنگیت و وہابیت کا ظہور توام بہنوں کی شکل میں ہوا۔ بالفاظ دگر انگریزوں و ہندوؤں کی ملی جلی شرارت کا دوسرا نام وہابیت ہے۔

محمود غزنوی سے کئی سو سال بعد وہابی مذہب پیدا ہوا۔

وہابی نماز کا نقشہ: اس مذہب کے پیروکار اگر اس وقت موجود ہوتے تو نماز کا نقشہ درج ذیل بھیانک شکل میں پیش ہوتا۔ نقال پہلے آٹے میں شراب ملا کر روٹی پکاتا پھر اسے اونٹ کی منی کے ساتھ کھاتا پھر سیر بھر پانی میں سیر بھر پیشاب ڈال کر وضو کرتا پھر خنزیر کی کھال اوڑھتا اس کے ایک حصہ پر بھینسے کی منی دوسرے پر بیل کا پیشاب تیسرے پر انگور کی شراب چوتھے پر استحاضہ کا خون ملتا۔ پھر مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہوتا۔ برہنہ سر ٹانگیں پھیلا کر مسجد ہی میں تھوکتے ہوئے نماز پڑھتا اور آخر میں کہتا — سلطان معظم یہ ہے وہابی مذہب کی نماز۔ پھر ثبوت کے لیے "لغات الحدیث" مصنف وحید الزمان اہل حدیث کی درج ذیل عبارات پیش کرتا۔

(۱) جو روٹی شراب ملا کر پکائی جائے اس کا کھانا درست ہوگا ص۶ ام — (۲) حلال جانوروں کی منی حلال بھی ہے اور پاک بھی ص۹۹ م۔ (۳) پانی قلیل ہو یا کثیر نجاست گرنے سے پاک رہتا ہے جب تک وصف نہ بدلے ص۲۲ ن — (۴) سور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے ص۲۴ و ص۸۹ ا۵ — (۵) جانوروں کا پیشاب نجس نہیں ص۲۲ سو۔
(۶) شراب حرام ہے نجس نہیں ص۸ ن — (۷) حیض کے سوا سب خون پاک ہیں ص۶۸ د
(۸) مسجد میں جوتوں سمیت نماز پڑھنا اور مسجد میں تھوکنا درست ہے ص۵۸ ب۔

جمیل احمد نذیری نقشبندی
ذخیرہ
لاہور پاکستان

Marfat.com

Marfat.com

Marfat.com